

المملكة العربية السعودية



483

فِرَازَةُ الشُّوْرِكِ لِإِسْلَامِيَّةِ الْأَوْقَافِ وَالِدَعْوَةِ وَالْإِشْرَاقِ

AWON ADUA TI WON JE AABO FUN MUSULUMI

LATI INU ALUKURAANI ATI SUNNA



Lati owo:
Sheikh Sa'iid bin Ali bin Wahf Al-Kahtooni

وَكَالِيَةُ الْمَطْبُوعَاتِ وَالْبَحْثِ الْعِلْمِيِّ

info@islam.org.sa

**AWỌN ADUA TI WỌN JẸ
AABO FUN MUSULUMI
LATI INU AL-QUR'AANI ATI SUNNA**

**TI SHAIK
SAID BN ALI BN WAHF AL-QAHTAANI**

**EYI TI A TUMỌ SI YORUBA LATI ỌWỌ:
Sharafuddeen Gbadebọ Raji**

Ni abẹ afojusi igbimọ t'ọ n se akoso eto titẹ iwe ati titan an
ka ni Ministiri yii

1436 H

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. ١٤٣١ هـ

ح

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
القحطاني ، سعيد

حصن المسلم . - الرياض .

١٦٨ ص ؛ ١٢ X ١٧ سم .

ردمك : ٥-٣٧٨-٢٩-٩٩٦٠

(النص باللغة اليوريا)

١- الأدعية والأوراد

١- العنوان

٢٢ / ٣٢٨٦

ديوي ٩٣ ، ٢١٢

رقم الإيداع : ٢٢ / ٣٢٨٦

ردمك : ٥-٣٧٨-٢٩-٩٩٦٠

الطبعة الخامسة عشر

١٤٣٦ هـ / ٢٠١٦ م

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**Mo bęřę ni orukę Qlqhun Qba Alaaanujulę
Aladipele-ęsan-rere.**

Dajudaju ti Qlqhun ni oęę i se, a n fi oęę fun Un, a si n tųrų aranse Rę, a si n tųrų idarijin lųdų Rę, a si n fi Qlqhun Naa wa isadi kuro nibi awųn aburu awųn ęmi wa, ati nibi awųn aidaa awųn ise owo wa, ęnikęni ti Qlqhun ba fi mųna kų si ęnikan ti o le si i lųna, bęę ni ęniyowu ti Qlqhun ba si lųna kų si ęnikan ti o le fi ųna mų ųn. Mo jęri pe kų si ęba kan ti o tų lati jųsin fun lododo yatų si Qlqhun nikan soso, kų si orogun kan fun Un, mo si tun jęri pe dajudaju Muhammad ęru Qlqhun ni i se, ojise Rę si ni pęlu, ikę Qlqhun ati ęla Rę ni ęla ti o pų, ki o maa ba oun ati awųn ara ile rę, pęlu awųn Sahaabe rę, ati awųn ti wųn n tęle wųn pęlu daadaa titi di ojo igbende.

Leyin naa: Eleyii ję iwe kekere kan ti mo fa yo lati inu iwe mi [ti mo sų ni]:

الذڪر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة

AL-DZIKRU WA -D-DUAA'U WA -L-ILAAJU BI -R-RUQAA MINA
-L-KITAABI WA -S-SUNNA. "Awųn iranti Qlqhun ati Adua ati iwosan pęlu Al-Ruqyah lati inu Al-Qur'aan ati Sunna". Mo yo eyi ti o ję ipin awųn iranti Qlqhun ninu rę, ki o le baa se e maa mu rajo,

Ati pe dajudaju mo da ohun ti mo ko sinu iwe yii duro sori awon gbolohun iranti Ololun "Al-dzikh" nikan, pelu didaruko okan tabi meji ninu awon tira ti won ti gbe e jade eyi ti [ekunre re alaye re] n be ninu ipile iwe yii, nitori naa enikeni ti o ba n fe lati mo Sahaabe "ti o gba egbawa-oru kan wa", tabi o fe lati ni alekun imo kan nipa ona ti egbawa-oru kan gba wa, ki onitoun o yaa pada lo sisi ipile iwe yii.

Mo n be Ololun Oba t'O ga t'O si gbun-un-gbun pelu awon oruko Re ti won dara ju, ati awon iroyin Re ti won ga ju pe ki O se e ni ohun ti a se nitori oju Re alaponle nikan, ki O si fi i se mi ni anfaani ni oju aye mi ati leyin iku mi, ki O si fi i se eni ti o ba ka a ni anfaani, tabi eni ti o ba te e, tabi o se agbateru titan an ka; dajudaju Ololun Oba-mimo ni Olukapa atise be, Oun Naa si ni Alagbara lori re.

Ike ati ola Ololun ki o maa ba Anabi wa Muhammad ati awon ara ile re ati awon Sahaabe re, ati awon ti won n tele won pelu daadaa titi di ojo esan.

**

*

OLA TIN BE FUN SISE IRANTI OLOHUN
"AL-DZIKR"

Olohun Oba t'O ga sọ pe:

﴿ مَا أَكْرَمَهُ أَكْرَمْتُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا ﴿١٥٢﴾ ﴾ [سورة

البقرة: ١٥٢].

« E maa se iranti Mi, Emi yoo maa ranti yin, e si maa
dupe fun Mi, e ma se se aimoore si Mi ». Qur'aan [2:152].

Olohun tun sọ pe:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَبِيرًا ﴿٤١﴾ ﴾ [سورة الأحزاب: ٤١].

« Eyin olugbagbo-ododo, e maa se iranti Olohun ni
iranti pupo ». Qur'aan [33:41].

Olohun tun sọ pe:

﴿ وَالذِّكْرِ كَثِيرٌ وَالذِّكْرُ أَكْبَرُ ﴿٣٥﴾ ﴾ [سورة الأحزاب: ٣٥].

« Ati pe awon okunrin ti won n se iranti Olohun
lopolopo ati awon obinrin ti won n se iranti Re
lopolopo, Olohun ti pese aforijin ati eesan nla kale
fun won ». Qur'aan [33:35].

Olohun t'O ga tun sọ pe:

﴿ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ
بِالْعُدُوِّ وَالْأَصْحَابِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٥﴾ ﴾ [سورة الأعراف:

[٢٠٥]

« Maa se iranti Oluwa re ninu okan re, ni ti irera-çni-sile pe lu irababa, ati ni ti iberu, lai pariwo ni owuro-kutu ati ni irile, ma se je okan ninu awon olugbagbe». Qur'an [7:205].

Ojise Qlqhun "ike ati o la Qlqhun k'o maa ba a" so pe:

« مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت »
ستن عليه.

« Apejuwe çni ti n se iranti Oluwa re ati çni ti ki i se iranti Re, dabi apejuwe oku ati alaaye ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

Ojise Qlqhun "ike ati o la Qlqhun k'o maa ba a" tun so pe:

« ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ » قالوا: بلى. قال: « ذكر الله تعالى »، رواه الترمذي وابن ماجه.

« E o yoo wa je ki n fun yin niro nipa eyi ti o loore ju ninu awon isç yin, ti o si je eyi ti o mo ju loo Qlqhun Olowo yin, ti o si se wi pe ohun ni yoo se agbega ipo fun yin ju, ti o si loore fun yin ju ki e maa fi wura ati fadaka t'ore lo, ti o si loore fun yin ju ki e kolu awon ota yin lo, lati maa pa won, ki awon naa o si maa pa yin bi?. Awon Sahaabe ni: Beç ni. Ojise

Qlqhun "ikę ati ęla Qlqhun k'o maa ba a" wa dahun bayii pe: Işę naa ni: Sise iranti Qlqhun Qba t'O ga "Al-dzikh"». Al-Tirmidziyyu ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

Ojise Qlqhun "ikę ati ęla Qlqhun k'o maa ba a" tun sọ pe:

« يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شراً، تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً، تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. » . سنن عبد .

« Qlqhun Qba t'O ga sọ pe: Emi A maa bę nibi ero ęru Mi si Mi, Emi A ři maa bę pęlu rę nigba ti o ba se iranti Mi, ti o ba se iranti Mi ninu ara rę, Emi Naa yoo se iranti rę ninu ara Mi, ti o ba si se iranti Mi laarin awon jama kan, Emi Naa yoo se iranti rę laarin awon jama kan ti o loore ju awon ti o se iranti Mi laarin won lo, ati pe ti ęru Mi ba sun mo Mi ni odiwon owọ kan, Emi yoo sun mo on ni odiwon apa kan, bęę ni ti o ba sun mo Mi ni odiwon apa kan, Emi yoo sun mo on ni odiwon apa merin, ati pe ti o ba wa ba Mi l'ęni ti n rin, Emi yoo lo ba a pęlu iyara». Bakhari ati Muslim l'o gbe e jade.

Egbawa-orọ tun wa lati odo Abdullahi omo Bus'r, "ki Qlqhun O yonu si i", o ni: Arakunrin kan

ni: Iwo Ojise Qlohun, dajudaju awon ofin esin Islam po fun mi, tori naa ko mi ni nnkan kan ti n o maa ro mo, Ojise Qlohun "ike ati o la Qlohun k'o maa ba a" ni:

« لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

« Ahon re ko gbodo ye ko si gbodo gbo nipa lile si sise iranti Qlohun "Al-dziker" ». Al-Tirmidziyyu ati Ibn Majah l'o gbe e jade.

Ojise Qlohun "ike ati o la Qlohun k'o maa ba a" tun so pe:

« من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول: (الم) حرف، ولكن: ألف حرف، ولام

حرف، وميم حرف ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

« Enikeni ti o ba ka harafi kan ninu tira Qlohun Qba "Al-Qur'aan Alapone", esan daadaa kan n be fun un lori re, ati pe esan daadaa naa yoo je adipele iru re lona mewa, ki i se wi pe "ALIF · LAAM · MEEM" ni mo gba lero pelu harafi kan "ti o ni esan daadaa mewa", rara; sugbon "ALIF" harafi kan ni i se, "LAAM" harafi kan ni oun naa i se pelu, bakan naa "MEEM" harafi kan ni oun naa i se ». Al-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

Egbawa-oru tun wa lati odo Uqbah Ibn Amir, 'ki Qlohun O yonu si i', pe: Ojise Qlohun "ike ati o la Qlohun k'o maa ba a" jade wa ba wa, nigba ti a

wa ni Suffah [aye kan ninu Masalasi Anabi ni ilu Madina], o si so pe:

« أياكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم ؟ »، فقلنا: يا رسول الله تحب ذلك. قال: « أفلاً يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم، أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خمر له من ثلاث، وأربع خمر له من أربع، ومن أعدداهن من الإبل ». - رواه مسلم.

« Ta ni n fe ninu yin lati maa jade ni afejumọ ni ojojumọ lo si Bat'haan tabi Aqeeq [aye meji kan ni ilu Madinah] ti yoo si tipase beẹ maa mu rakunmi meji ti won je abike-bokua-bokua wale lati ibe, laidese kan "nitori re", lai ko si ja okun ebi kan pelu?». Ni a ba dahun pe: Iwo Ojise Olohun, a n fe beẹ. O si so pe: « Nje enikan yin o yoo wa maa fi afejumọ wa si Masalasi lati wa mo, tabi lati wa maa ka aayah meji ninu tira Olohun t'O ga t'O si gbọn-un-gbọn "Al-Qur'aan" bi?, eleyii loore fun un ju rakunmi meji lo, beẹ ni kika aayah meta loore fun un ju rakunmi meta lo, bakan naa aayah merin loore fun un ju rakunmi merin lo ... ». Masim l'o gbe e jade

Ojise Olohun "ike ati oia Olohun k'o maa ba a" tun so pe:

« من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه، كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه، كانت عليه من الله ترة ».

رواه أبو داود وغيره

« Ẹnikẹni ti o ba jokoo ni aye kan lai kò se iranti Qlòhun nibẹ -titi ti o fi dide kuro nibẹ-, abuku ni yoo jẹ tiẹ lati ọdọ Qlòhun, ati pe ẹnikẹni ti o ba fi ẹyin lele ni ibikan ti kò si se iranti Qlòhun nibẹ, abuku ni yoo jẹ tiẹ lati ọdọ Qlòhun ». Abu-Daa'uud ati awon misran l'o gbe e jade

Ojise Qlòhun "ike ati ọla Qlòhun k'o maa ba a" tun so pe:


« ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه، ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم، وإن شاء غفر لهم ». رواه ترمذي

« Awon kan ko ni i jokoo ni aye kan lai ko se iranti Qlòhun nibẹ, lai ko si se aslatu fun Anabi won, a fi ki o je ibalejo fun won -lojo Qlòhun-;nitori naa ti O ba fe, O le fiya je won, ti O ba si fe, O le dari jin won ». Al-Tirmidziyyu l'o gbe e jade

Ojise Qlòhun "ike ati ọla Qlòhun k'o maa ba a" tun so pe:

« ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة ». رواه احمد وابو داود

« Kò sí awọ̀n ká n tì wọ̀n yoo dídẹ̀ kuro ní aye ká n tì wọ̀n tì jọkọ̀, láì kò se iranti Ọ̀lọ̀hun níbẹ̀, ańí kí idídẹ̀ wọ̀n ọ̀ jẹ̀ idídẹ̀ kuro ní dídẹ̀ ohun tì ọ̀ jọ̀ oku kẹ̀tẹ̀kẹ̀tẹ̀, ańí pẹ̀ yoo jẹ̀ ohun íbanujẹ̀ fun wọ̀n ».. Ahmad ańí Abu-Daa' uud l' ọ̀ gbẹ̀ e jade.



ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA JI

١ - « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ». سنن
عليه

[AL-HAMDU LI-L-LAHI -L-LADZEE AH'YAANAA BA'ADA MAA
AMAATANAA WA ILAIHI -N-NUSHUUR].

« Ope ni fun Olohun ti O ta wa ji leyin pipa ti O pa
wa, odo Re si ni igbende gbogbo e da yoo je ». Bukhari
ati Muslim l'o gbe e jade

٢ - « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْعَرْشُ وَلَهُ الْحَمْدُ،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ،
رَبِّ اغْفِرْ لِي ». رَوَاهُ الْحَارِثِيُّ

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDHU LAA SHAREEKA LAH,
LAHU -L- MULKU WA LAHU -L- HAMD, WA HUWA ALAA
KULLI SHAIN IN QADEER, SUBHAANA -L-LAH, WA -L-HAMDU
LI -L-LAH, WA LAA ILAAHA ILLA -L-LAH, WA -L-LAHU AKBAR,
WA LAA HAWLA WA LAA QUWWATA ILLA BI -L-LAHI -L-
ALIYYI -L-ADZEEM RABBI -G-FIRLEE].

« Kò si o ba kan ti o to lati fi ododo josin fun yatọ si
Olohun nikan soso, ko si orogun fun Un, tiE ni
gbogbo akoso ati gbogbo eyin i se, Oun si ni
Alagbara lori gbogbo nkan, mimo ni fun Olohun,
ope ni fun Olohun, kò si o ba kan ti o to lati fi ododo

josin fun yato si Qlohun, Qlohun l'O tobi ju, ati pe ko si ogbon kan, ko si si agbara kan leyin Qlohun Qba-giga, Qba-titobi, Qlohun dari jin mi ». Bukhari l'o gbe e jade.

۳- « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي فِي حَسْبِي، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ ». رَوَاهُ ترمذی.

[AL-HAMDU LI-L-LAHI -L-LADZEE AAFANEE FEE JASADEE, WA RADDA ALAIYYA RUUHEE, WA ADZINA LEE BI DZIKRIHI].

« Qpe ni fun Qlohun Qba ti O fun mi ni alaafia ni ara mi, ti O si da çmi mi pada si mi lara, ti O si yonda fun mi lati se iranti Reç ». Al-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

۴ - ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطُلًا مُّبِينًا ﴿١٥٢﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ ﴿١٥٣﴾ رَبَّنَا إِنَّا أَسْعَفْنَا مُنَادِيَ يَأْتِيهِمُ الْإِيمَانُ أَن مَّا مِثُوا بِرَبِّكُم فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ ﴿١٥٤﴾ رَبَّنَا وَآيِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا

غُرْنَا يَوْمَ الْيَوْمِ إِنَّكَ لَا تَغْلِبُ الْيَعَادَ ﴿١٧٠﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا
أُضِيعُ عَمَلٌ عَمِلْتُمْ مِنْ دُونِي أَوْ أَنْتُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ قَالُوا
مَا جِئُوا بِآيَاتِنَا مِنْ دُونِهَا وَجَاءُوا بِسِحْرِ الْمُجْرِمِ وَأَنْتُمْ
لَأَكْفَرُونَ عَنْهُمْ كَيْفَاتِهِمْ وَلَآءَ يُلَاقُهُمْ جَنَّتُ بَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ قَوَامًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٧١﴾ لَا يَغْرُلُكَ
عَنْ قَلْبِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْيَلْدِ ﴿١٧٢﴾ مَتَّعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَا لَهُمْ مِنْكُمْ
وَيْسَ الْيَهُودِ ﴿١٧٣﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا رَبَّهُمْ هُمُ جَنَّتُ بَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا تَرَى مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴿١٧٤﴾
وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ السَّعْيِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ
إِلَيْهِمْ خَشْيَةَ اللَّهِ لَآ يَشْكُرُونَ بِقَابَتِ اللَّهِ ثُمَّ قَلِيلًا أُولَئِكَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّكَ اللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٧٥﴾ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَاطِبُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٧٦﴾ ﴿سورة آل عمران: ١٩٠ - ٢٠٠﴾.

[INNA FEE KHALQI -S-SAMAAWAATI WA -L-ARDHI WA
KH'TILAAFI -L-LAILI WA -N-NAHAARI LA AAYAATIN LI ULI-L-
AL-BAAB* ALLADZEENA YADZ'KURUUNA -L-LAHA
QIYAAMAN WA QU'UUDAN WA ALAA JUNUUBIHIM WA
YATAFAKKARUUNA FEE KHALQI -S-SAMAAWAATI WA -L-
ARDHI RABBANAA MAA KHALAQ'TA HAADZAA BAATILAN

SUBHAANAKA FAQINAA ADZAABA -N-NAAR* RABBANAA
 INNAKA MAN TUDKHILI -N-NAARA FAQAD AKH'ZAITAHU
 WA MAA LI -D-DZAALIMEENA MIN ANSAAR* RABBANAA
 INNANAA SAMI'INAA MUNAADIYAN YUNAADEE LI-L-IMAANI
 AN AAMINUU BI RABBIKUM FA AAMANNA RABBANAA
 FAGFIR LANAA DZUNUUBANAA WA KAFFIR AN-NAA
 SAYYIAATINAA WA TAWAFFANAA MA'A -L-ABRAAR*
 RABBANAA WA AATINAA MAA WA ADTANAA ALAA
 RUSULIKA WA LA TUKH'ZINAA YAUMA -L-QIYAAMATI
 INNAKA LA TUKH'LIFU -L-MEE'AAD* FASTAJAABA LAHUM
 RABBUHUM ANNEE LA UDEE'U AMALA AAMILIN MINKUM
 MIN DZAKARIN AU UNTHAA BA'ADUKUM MIN BA'AD FA-L-
 LADZEENA HAAJARUU WA UKH'RIJUU MIN DIYAARIHIM
 WA UUDZUU FEE SABEELEE WA QAATALUU WA QUTILUU
 LA UKAFFIRANNA ANHUM SAYYI'AATIHIM WA
 LA'UDKHILANNAHUM JANNAATIN TAJ'REE MIN TAH'TIHAA
 -L-AN'HAARU THAWAABAN MIN INNDI -L-LAHI WA -L-LAHU
 INDAHU HUSNU THAWAAB* LA YAGURRANNAKA
 TAQALLUBU -L-LADZEENA KAFARUU FEE -L-BILAAD
 MATAAUN QALEELUN THUMMA MA'AWAAHUM
 JAHANNAMA WA BI'ISA -L-MIHAAD* LAAKINI -L-LADZEENA
 -T-TAQQAW RABBAHUM LAHUM JANNAATUN TAJ'REE MIN
 TAH'TIHA -L-AN'HAARU KHAALIDEENA FIHAA NUZULAN
 MIN INDI -L-LAHI WA MAA INDA -L-LAHI KHAIRUN LI-L-
 ABRAAR* WA INNA MIN AH'LI -L-KITAABI LAMAN
 YU'UMINU BI -L-LAHI WA MAA UNZILA ILAIKUM WA MAA
 UNZILA ILAIHIM KHASHI'YEENA LI-L-LAAH LA

YASH'TARUUNA BI AAYAATI -L-LAHI THAMANAN
 QALEELAN ULAAIKA LAHUM AJ'RUHUM INDA RABBIHIM
 INNA -L-LAHA SARI'EEU -L-HISAAB* YAA AYYUHA -L-
 LADZEENA AAMANUU -S-BIRUU WA SAABIRUU WA
 RAABITUU WA-T-TAQUU -L-LAHA LA'ALLAKUM
 TUFLIHUUN*].

« Dajudaju awon ami n be fun awon onilaakaye ninu iseda awon sanma ati ile, ati titete [ara won] oru ati osan. Awon ti won maa n se iranti Olohun ni iduro ati ni ijoko ati ni ifegbelele won, ti won si maa n ronun nipa iseda awon sanma ati ile, Oluwa wa! Iwo ko seda awon nnkan wonyi lasan, mimo ni fun O, tori naa so wa nibi iya ina. Oluwa wa! o daju pe enikeni ti O ba mu wona O ti doju ti i, ki yoo si si oluranlowo kan fun awon alabosi. Oluwa wa! dajudaju awa gbogbo ti olupepe kan n pepe lo sibi igbagbogbo pe: E gba Oluwa yin gbogbo, tori naa awa gbagbogbo, Oluwa wa, dari cesce wa jin wa, ki O si pa awon aburu wa re fun wa, ki O si pa wa pelu awon eni-rere. Oluwa wa! fun wa ni ohun ti O se ni adehun fun wa lati enu awon ojise Re, ma si se te wa ni ojo igbende, dajudaju Iwo ki I ye adehun. Oluwa won si je ipe won pe: Emi ki yoo fi ise ti enikan ninu yin se rare rara, yala okunrin tabi obinrin, ninu apa kan yin ni apa keji ti jade, tori naa awon ti won se hijira "isipopada kuro ni ilu ebo lo si ilu Islam", ti won si le won jade kuro ni awon ile won, ti won si fi

ara ni wọn ni oju-ona Mi, ti wọn si jagun, ti wọn si pa wọn, Mo bura pe dajudaju Emi yoo pa awọn aburu wọn re fun wọn, N o si mu wọn wo awọn ogba-ideṣa ti awọn odo n san ni abẹ wọn, eleyii je ẹsan lati ọdọ Ọlọhun, Ọlọhun ni O ni ẹsan ti o dara ju ọdọ. Ma se je ki lilọ-bibọ awọn alaigbagbọ ninu awọn ilu gbogbo o tan o je rara. Igbadun igba diẹ lasan ni eleyii i se, leyin naa ina Jahannama ni ibupadasi wọn, o si buru ni itẹ. Sugbọn awọn ti wọn n paya Oluwa wọn, awọn ogba-ideṣa ti awọn odo n san ni abẹ wọn n be fun wọn, inu re ni wọn yoo maa be laelae, eyi je ibusọsi fun wọn lati ọdọ Ọlọhun, ohun ti n be ọdọ Ọlọhun ni o loore ju fun awọn oluse-rere. Dajudaju o n be ninu awọn ti a fun ni tira -Yahudi ati Nasara- awọn ti wọn gba Ọlọhun gbọ, ati ohun ti a so kalẹ fun yin, ati ohun ti a so kalẹ fun wọn, ti wọn si maa n reṣa wọn silẹ fun Ọlọhun, ti wọn ki i si ta awọn ọrọ Ọlọhun ni owo pọọku, ẹsan awọn wọnyi n be ọdọ Oluwa wọn, dajudaju Oba ti O yara ni isiro ni Ọlọhun. Eyin olugbagbọ-ododo ẹ se suuru, ẹ si maa fun awọn eniyan ni suuru, ẹ si duro sinsin, ki ẹ si paya Ọlọhun, ki ẹ le baa sori-ire».

Qur'aan -[3] Al-Imraan, 190-200.

ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BA WỌ
EWU TAN

« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ
مِنِّي وَلَا قُوَّةَ ». [امرحه اهل السنن إلا الساني].

[ALHAMDU LI-L-LAHI .L-LADZEE KASAANEE HAADZAA
THAWB, WA RAZAQANEEHI MIN GAIRI HAWLIN MINNEE WA
LAA QUWWAH].

« Ope ni fun Olohun ti O fun mi ni ewu yii wo, ti O
si ro mi loro re, lai je pe ogbon kan tabi agbara kan
lati odo mi l'o je ki o ri beje ». Awon oni-tira Sunna l'o gbe e
jade yato si An-Nasaa'.

ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BA WỌ
ASQ TUNTUN

« اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِي، أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا
صُنِعَ لَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ ». [رداه اسودود
والترمذي]

[ALLAHUMMA LAKA .L-HAMDU ANTA KASAWTANEEHI
AS'ALUKA MIN KHAIRIHI WA KHAIRI MAA SUNI'A LAH, WA
AUUDZU BIKA MI SHARRIHI WA SHARRI MAA SUNI'A LAH].

« Ope ni fun Iwo Olohun, Iwo l'O fun mi ni asq yii
wo, mo n toro oore re loro Re ati oore ohun ti a se e
fun, mo si n fi O wa isadi nibi aburu re ati aburu
ohun ti a se e fun ». Abu-Daa'uud ati At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade

**ADUA TI A O SE FUN ENI TI O WO ASO
TUNTUN.**

« بُنَى وَيُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى » . [رواه ابو داود].

[TUBLAA WA YUKHLIFU -L-LAHU TA'AALAA].

« -Ẹmi rẹ- yoo -lo o- gbo, Ọlọhun Ọba t'O ga yoo si fi ọtun omiran jaarọ rẹ fun Ọ » . Abu-Daa'ud l'o gbe e jade.

« إِيْسُ حَمِيدًا، وَعِشْرُ حَمِيدًا، وَمُتُّ شَهِيدًا » . [رواه ابن ماجه].

[IL'BIS JADEEDAN, WA ISH HAMEEDAN, WA MUT SHAHEEDAN].

« Tuntun kò ni i tan ni apa ẹwu rẹ, isẹmi ẹyin yoo jẹ tiẹ, o si ku iku shahidi -eni ti o ku si oju ogun lati gbe ẹsin Ọlọhun ga- » . Ibn Maajah l'o gbe e jade.

**ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA N
BO EWU RE**

« بِسْمِ اللَّهِ » . [رواه الترمذى].

[BISMI -L-LAH].

« -Mo n ẹwu- ni orukọ Ọlọhun » . At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

**ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BA FE
WO ILE-IGBONSE TABI AYE YOWU TI O TI
FE SE IGBONSE**

« بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحُبِّ وَالْحَبَائِثِ » . [سنن
عبد]

[BISMI -L-LAH, ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BIKA MINA -L-KHUBUTHI WA -L-KHABAA'ITH].

« -Mo n wọle- ni orukọ Ọlọhun, Mo sadi Iwo Ọlọhun kuro ni ọdọ awọn ọkunrin ati awọn obinrin ESU ». Bukhari ati Muslim l'ọ gbe e jade

ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BA N
JADE KURO NI ILE-IGBONSE TABI
IBIYOWU TI O TI SE IGBONSE

« غُفِرَ أَنْتَ ». [المرءة أصحاب السر إلا نسائ].

[GUF'RAANAK].

« Ọlọhun dari jin mi ». Awọn oni-cira Sunna l'ọ gbe e jade yato si An-Nasaa'i.

ADUA IBERE ALUWALA

« بِسْمِ اللَّهِ ». [رواه أحمد، وابو داود، وابن ماجه].

[BISMI -L-LAH].

« -Mo bere- ni orukọ Ọlọhun ». Ahmad, ati Abu-Daa'ud, ati Ibn Maajah l'ọ gbe e jade

ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BA PARI
ALUWALA

« - ۱ « أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ... ». [رواه مسلم]

[ASH'HADU AN LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAH'DAHU LAA SHAREEKA LAH, WA ASH'HADU ANNA MUHAMMADAN ABDUHU WA RASUULUH ...].

« Mo jẹri pe kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun nikan soso, kò si orogun kan fun Un, mo si tun jẹri pe Anabi Muhammad ẹru Ọlọhun ni i se, ojise Rẹ si ni pe lu ... ». Muslim l'o gbe e jade

۲- « اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ».
[رواه الترمذی]

[ALLAHUMMA -J-AL'NEE MINA -T-TAWAABEEN, WA -J-AL'NEE MINA -L-MUTATAAHIREEN].

« Ọlọhun se mi ni ọkan ninu awọn oluronupiwada, si se mi ni ọkan ninu awọn oluse-imora ». Al-Tirmidziyyu l'o gbe e jade

۳- « سُبحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ».
[رواه النسائي في عمل اليوم والليلة]

[SUBHAANAKA -L-LAHUMMA WA BIHAMDIK, ASH'HADU AN LAA ILAAHA ILLA ANT, ASTAGFIRUKA WA ATUUBU ILAIK].

« Mimọ ni fun Iwọ Ọlọhun, mo fi eyin fun Ọ, mo si jẹri pe kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọ, mo n tọrọ aforijin lọdọ Rẹ, mo si n ronupiwada lọ si ọdọ Rẹ ». An-Nasaa' l'o gbe e jade ninu tra Amalu -b-yaawmi wa -l-lailah

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA FE JADE KURO NI ILE

۱- « بِسْمِ اللَّهِ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ».
[رواه أبو داود والترمذی]

[BISMI-L-LAH, TAWAKKALTU ALAA -L-LAH, WA LAH HAWLA WA LAH QUWWATA ILLA BI -L-LAH].

« -Mo n jade- ni oruko Olohun, mo ba Olohun duro, ko si ogbon kan, be ni ko si agbara kan leyin Olohun ». Abu-Daa'uud ati At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

٢ - « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ، أَوْ أَضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ، أَوْ أَزَلَ،

أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ ». [أرواه إمام السنن]

[ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BIKA AN ADHILLA, AU UDHAL, AU AZILLA AU UZAL, AU ADZLIMA AU UDZLAM, AU AJHALA AU YUJHAL ALLAIYYA].

« Mo sadi Iwo Olohun kuro nibi ki n sina, tabi ki a si mi lona, ati nibi ki n desese, tabi ki a mu mi desese; ati nibi ki n se abosi fun enikan tabi ki a se abosi fun mi, ati nibi ki n si iwa hu, tabi ki a o mu mi si iwa hu ». Awon oni-tira Sunna l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA FE WO ILE RE

« بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ، وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا، وَعَلَى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا؛ ثُمَّ

لِيَسْمَ عَلَيَّ أَهْلَهُ ». [أرواه أبو داود]

[BISMI-L-LAHI WALAJNAA, WA BISMI-L-LAHI KHARAJNAA WA ALAA RABBINAA TAWAKKALNAA].

« “A wole ni oruko Olohun, a si jade ni oruko Olohun, Oluwa wa ni a gbekere”. Leyin naa ki o salama si awon ebi re ».

ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI BA N LO SI
MASALASI

« اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي لِسَانِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ شِمَالِي نُورًا، وَمِنْ أَمَامِي نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي نَفْسِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، وَعَظِّمْ لِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا، وَاجْعَلْ لِي نُورًا، اللَّهُمَّ أَعْظِمْ لِي نُورًا، وَاجْعَلْ فِي عَصِي نُورًا، وَفِي لَحْمِي نُورًا، وَفِي دَمِي نُورًا، وَفِي شَعْرِي نُورًا، وَفِي بَشْرِي نُورًا. » [سنن ابنه]

[ALLAHUMMA -J-AL FEE DALBEE NUURAN, WA FEE LISAANEE NUURAN, WA FEE SAM'T'EE NUURAN, WA FEE BASAREE NUURAN, WA MIN FAWQEE NUURAN, WA MIN TAHTEE NUURAN, WA AN YAMEENEE NUURAN, WA AN SHIMAALEE NUURAN, WA MIN AMAAMEE NUURAN, WA MIN KHALFEE NUURAN, WA -J-AL FEE NAFSEE NUURAN, WA A'ADZIM LEE NUURAN, WA ADZZIM LEE NUURAN, WA -J-AL LEE NUURAN, WA -J-ALNEE NUURAN, ALLAHUMMA A'ATINEE NUURAN, WA -J-AL FEE ASABEE NUURAN, WA FEE LAHMEE NUURAN, WA FEE DAMEE NUURAN, WA FEE SHA'AREE NUURAN, WA FEE BASHAREE NUURAN].

« Oloḥun fi imọlẹ si inu oḳan mi, fi imọlẹ si aḥon mi, fi imọlẹ si inu eti mi, fi imọlẹ si inu oju mi, fi

imọlẹ si oke mi, fi imọlẹ si isalẹ mi, fi imọlẹ si apa
 ọtun mi, fi imọlẹ si apa alaafia mi, fi imọlẹ si iwaju
 mi, fi imọlẹ si ẹyin mi, fi imọlẹ si inu ẹmi mi, jẹ ki
 imọlẹ mi o tobi, se imọlẹ mi ni titobi fun mi, jẹ ki n
 ni imọlẹ, se mi ni imọlẹ, Olohun fun mi ni imọlẹ, fi
 imọlẹ si inu isan mi, fi imọlẹ si inu ẹran mi, fi imọlẹ
 si inu ẹjẹ mi, fi imọlẹ si inu irun mi, fi imọlẹ si inu
 awọ mi » . Bukhari si Muslim l' o gbẹ e jade.

« اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي نُورًا فِي قَبْرِي، وَنُورًا فِي عِظَامِي، وَزِدْنِي
 نُورًا، وَزِدْنِي نُورًا، وَزِدْنِي نُورًا »⁽¹⁾. « وَهَبْ لِي نُورًا عَلَى
 نُورِي »⁽²⁾.

[ALLAHUMMA J-AL LEE NUURAN FEE QABREE, WA
 NUURAN FEE IDZAAMEE, WA ZIDNEE NUURAN, WA ZIDNEE
 NUURAN, WA ZIDNEE NUUBAN, WA HABLEE NUURAN ALAA
 NUUR].

« Olohun ba mi fi imọlẹ si inu saare mi, fi imọlẹ si
 inu awon eegun mi, se alekun imọlẹ fun mi, se
 alekun imọlẹ fun mi, se alekun imọlẹ fun mi, bun mi
 ni imọlẹ kun imọlẹ ».

(1) رواه البخاري في الأدب المفرد.

(2) ذكره ابن حجر في الفتح، وعراه في ابن أبي عاصم في كتاب الدعاء.

ADUA ATIWQ MASALASI

« أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، وَبِرَّحْمَةِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ،
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ، وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ، اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. »

[AUUDZU BI-L-LAHI -L-ADZEEM, WA BI WAJHIHI -L-KAREEM,
WA SULTAANIHI -L-QADEEM, MINA -SH-SHAITAANI -R-
RAJEEM, BISMI -L-LAHI WA -S-SALAATU WA S-SALAAMU
ALAA RASUULI -L-LAH, ALLAHUMMA -F-TAH LEE ABWAABA
RAHMATIK].

« Mo n fi Olohun Oba -titobi ati oju Re alaponle ati
ijoba Re laelae wa isadi kuro lodu esu eni-egbe, mo
n wole ni oruko Olohun, ike ati olo Olohun k'o maa
ba Ojise Olohun, Olohun si awon ilekun aanu Re fun
mi ».

ADUA ATIJADE NI MASALASI

« بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي
أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اللَّهُمَّ اغْنِمْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. »

[BISMI -L-LAHI WA -S-SALAATU WA -S-SALAAMU ALAA
RASUULI -L-LAH, ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA MIN
FADHLIK, ALLAHUMMA A'ASIMNEE MINA -SH-SHAITAANI -
R-RAJEEM].

« Mo n jade ni orukọ Ọlọhun, ikẹ ati ọla Ọlọhun k'ọ maa ba Ojise Ọlọhun, Iwọ Ọlọhun fun mi ninu ọla Re, Ọlọhun sọ mi kuro lodo esu eni-egbe ».

AWON OHUN TI ENIYAN YOO MAA WI
NIGBA TI WON BA N PERUN

1- Eniyan yoo maa wi iru ohun ti oluperun n wi yatọ si wi pe nigba ti o ba sọ pe: [HAYYA ALA -S-SALAAH], ati [HAYYA ALA -L-FALAAH], ohun ti eniyan yoo wi leyin ekini keji won ni:

« لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ».

[LAA HAWLA WA LAA QUWWATA ILLA BI -L-LAH].

2- Leyin ti oluperun ba wi awon gbolohun ijeri mejeeji [ti i se: **ASH'HADU AN LAA ILAHA ILLA -L-LAH**], ati [**ASH'HADU ANNA MUHAMMADAN RASUULU -L-LAH**] tan, ti eniyan naa si ti wi i tele e leyin gẹgẹ bi o ti wi i, eniyan o sọ pe:

« رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ». [رد]

سليما

[RADHEETU BI-L-LAHI RABBAN, WA BI MUHAMMADIN RASUULAN, WA BI -L-ISLAMI DEENAN].

« Mo gba Ọlọhun ni Oluwa, mo si gba Muhammad ni ojise, mo si gba Islam lesin » .Muslim l'o gbe e jade.

3- Leyin ti won ba perun tan eniyan o se asalatun fun Anabi wa "ikẹ ati ọla Ọlọhun k'ọ maa ba a". Muslim l'o gbe e jade.

4- Lẹyin naa ni eniyan o wa wi awon gbolohun ti n bo woyi:

« اللَّهُمَّ رَبُّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَأَنْعِنُهُ مَقَامًا مُحَمَّدًا الَّذِي وَعَدْتُهُ »
"إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِعَادَ"»

[ALLAHUMMA RABBA HAADZIHI -D-DA'AWATI -T-TAAMMAH, WA -S-SALAATI -L-QAA'IMAH, AATI MUHAMMADAN AL-WASEELATA WA L-FADHEELAH, WAB'ATH'HU MAQAAMAN MAHMUUDANI -L-LADZEE WA ADTAH, INNAKA LAA TUKHLIFU -L-MEE'AAD].

« Iwo Olohun Oba ti O ni ipe pipe yii, ati irun ti a gbe duro yii, fun Anabi Muhammad ni Al-Wasila [aye oia nla kan ninu Al-Janna -ogba idera- ti Olohun pa lese kale fun okan ninu awon eru Re], ati ajulo, ki O si gbe e dide ni aye eyin ti O se ladehun fun un. Dajudaju Iwo ki I ye adehun rara ».

5- Lẹyin eleyii eniyan o maa toro gbogbo ohun ti n fe ni oore laarin asiko ti n be leyin irun pipe si igba ti

(۱) رواه البخاري

(۲) رواه البيهقي في السنن الكبرى، وحسن إسناده العلامة عبد العزيز بن باز في

التحفة

won yoo gbe irun duro, tori pe Ọlọhun ki I kọ adua si ẹru Rẹ ẹnu ni asiko naa. Ahmad, ati Abu-De'uud, ati At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

ADUA ISIRUN

١- « اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ، كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ، بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ * . [سنة منه].

[ALLAHUMMA BAA'ID BAINEE WA BAINA KHATAAYAAYA KAMAA BAA'ADTA BAINA -L-MASHRIQI WA -L-MAGRIB, ALLAHUMMA NAQQINEE MIN KHATAAYAAYA KAMAA YUNAQQA -TH-THAWBU -L-ABYADU MINA -D-DANAS, WA'G'SILNEE MIN KHATAAYAAYA BI -T-THALJI WA -L-MAA'WA -L-BARAD].

« Ọlọhun gbe mi jinna si awon asise mi gege bi O ti se gbe ibula oorun jinna si ibuwọ re, Ọlọhun fo mi mo kuro ninu awon asise mi gege bi a ti maa n fo aso funfun mo kuro ninu gbogbo idoti, Ọlọhun we mi kuro ninu awon asise mi pelu omi tutu ati omi ati omi ojo ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

٢- « سُحْبَاتِكَ اللَّهُمَّ وَيَحْمَدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى حُدُوكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ * . [سنة من أصحاب السنة الأربعة].

[SUBHAANAKA -L-LAHUMMA WA BI HAMDIK, WA TABAARAKA -S-MUK, WA TA'AALAA JADDUK, WA LAALILAAHA GAIRUK].

« Mimọ ni fun Iwo Ọlọhun, eyin si ni fun O, ibukun ni fun oruko Re, giga ni fun titobi Re, ati pe kò si oba kan ti o to lati fi ododo josin fun yatọ si O ». Awon oni-tira Sunna mọpọrin l'o gbe e jade.

٣- « وَجْهَتْ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْعَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَاعْفُرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، كُنْتُ لَكَ وَمَسْعُدُوكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدِكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ». رومسلم.

[WAJJAHTU WAJHIYA LI -L-LADZEE FATARA -S-SAMAAWAATI WA -L-ARDHA HANEEFAN WA MAA ANA MINA -L-MUSHRIQEEN, INNA SALAATEE WA NUSUKEE, WA

MAHYAAYA, WA MAMAATEE LI -L-LAHI RABBI -L-
 AALAMEEN, LAA SHAREEKA LAH, WA BI DZAALIKA UMIRTU
 WA ANA MINA -L-MUSLIMEEN. ALLAHUMMA ANTA -L-
 MALIQU LAA ILAAHA ILLA ANT. ANTA RABBE WA ANA
 ABDUK, DZALAMTU NAFSEE WA'ATARAFU BI DZAMBEE
 FA'G'FIR LEE DZUNUUBEE JAMEE'AN INNAHU LAA
 YA'G'FIRU D-DZUNUUBA ILLA ANT. WA H'DINEE LI AHSANI
 -L-AKHLAAQ LAA YAHDEE LI AHSANIHAA ILLA ANT, WA -S-
 RIF ANNEE SAYYI'AHAA, LAA YASRIF ANNEE SAYYI'AHAA
 ILLA ANT, LABBAIKA WA SA'ADAIK, WA -L-KHAIRU KULUHU
 BI YADAIK, WA -SH-SHARRU LAISA ILAIK, ANA BIKA WA
 ILAIK, TABAARAKTA WA TA'AALAIT, AS'TAG'FIRUKA WA
 ATUUBU ILAIK].

« Mo d'ọju mi kọ Ọlọhun ti O sẹda awọn sanma ati
 ilẹ l'eni ti o fi ọju-ona ti kò dọgba silẹ ati pe emi kò
 jẹ ọkan ninu awọn ọsẹbo rara, dajudaju irun mi ati
 iparan-josin mi, isẹmi ati iku mi ti Ọlọhun Oluwa
 gbogbo ẹda ni i se, Ọba ti kò ni orogun, eyi ni ohun
 ti a fi pa mi lasẹ, bẹẹ ni ọkan ninu awọn Musulumi
 [olugbafa fun Ọlọhun] ni emi i se. Iwọ Ọlọhun ni
 Ọba, kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo josin fun yatọ
 si Ọ, Iwọ ni Oluwa mi, ẹru Rẹ ni mi, mo se abosi fun
 ori ara mi, mo si jẹwọ ẹsẹ mi, se aforijin awọn ẹsẹ
 mi fun mi lapapọ, tori pe ẹnikan ki i dari ẹsẹ ẹni jin
 ni yatọ si Ọ, fi ọna mọ mi lọ sibi eyi ti o dara ju ninu
 awọn iwa, eyi ti ẹnikan kò le e fi ni mọna lọ sibi eyi
 ti o dara ju ninu rẹ yatọ si Ọ, sẹri mi kuro nidi eyi ti

kò dara ninu awon iwa, eyi ti enikan kò le e sẹri eni kuro nidi eyi ti kò dara ninu rẹ yatọ si Ọ, mo n bẹ lori titẹle ilana Rẹ ni bibẹ leyin bibẹ, mo si n tẹle ẹsin Rẹ ni titẹle leyin titẹle, gbogbo oore n bẹ lowo Rẹ mejeeji, aburu ki i se tiE, Iwo ni O fi mi se kongẹ, ati pe ọdọ Rẹ naa ni n o pada si, ibukun ati giga ni fun Ọ, mo n toro aforijin ọdọ Rẹ, mo si n ronupiwada lo si ọdọ Rẹ ».Muslim l'o gbe e jade.

٤- « اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ». [ورد مسلم]

[ALLAHUMMA RABBA JIBRAA'IEEL, WA MIKAA'IEEL, WA ISRAAFEEL, FAATIRA -S-SAMAAWATI WA -L-ARDH, AALIMA -L-GAIBI WA -SH-SHAHAADAH, ANTA TAHKUMU BAINA IBAADIKA FEEMAA KANUU FEEHI YAKHTALIFUUN. IHDINEE LIMAA 'KHTULIFA FEEHI MINA -L-HAQQI BI IDZINIK, INNAKA TAHDEE MAN TASHAA'U ILAA SIRAA TIN MUSTAQEEM].

« Ọlọhun Ọba Malaika Jibreel ati Mikaa'i'eel ati Israafeel, Olupilẹda awon sanma ati ile, Olumọ ikokọ ati gbangba, Iwo ni O se idajo laarin awon eru Rẹ nipa ohun ti won n se iyapa-enu le lori. Fi ona mo

mi pɛlu iyonda Rɛ lɔ sidi ohun ti o jɛ ododo ninu
ohun ti wɔn n se iyapa-ɛnu le lori, dajudaju lwo ni O
maa N fi ɔna mo ɛni ti O ba fɛ lɔ si ɔna ti o dogba ».

Muslim l'o gbe e jade.

« - ٥ - الله أكبرُ كبيراً، الله أكبرُ كبيراً، وَالْحَمْدُ
لِلَّهِ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ
بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا،
وَأَصِيلًا، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ: مِنْ نَفْسِهِ، وَنَفْسِهِ، وَهَمَزِهِ ».

[رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه].

[ALLAHU AKBARU KABEERAN, ALLAHU AKBARU
KABEERAN, ALLAHU AKBARU KABEERAN, WA -L-HAMDU LI
-L-LAHI KATHEERAN, WA -L-HAMDU LI -L-LAHI KATHEERAN,
WA -L-HAMDU LI -L-LAHI KATHEERAN, WA SUBHAANA -L-
LAHI BUKRATAN WA ASEELAN, WA SUBHAANA -L-LAHI
BUKRATAN WA ASEELAN, WA SUBHAANA -L-LAHI
BUKRATAN WA ASEELAN, AUUDZU BI -L-LAHI MINA -SH-
SHATAAN, MIN NAFKHIHI, WA NAFTHIHI, WA HAMZIHI].

« Olɔhun l'O tobi ju ni titobi, Olɔhun l'O tobi ju ni
titobi, Olɔhun l'O tobi ju ni titobi, ɔpɛ ni fun Olɔhun
lɔpɔlɔpɔ, ɔpɛ ni fun Olɔhun lɔpɔlɔpɔ, ɔpɛ ni fun
Olɔhun lɔpɔlɔpɔ, mimɔ ni fun Olɔhun ni owuro
kutukutu ati ni irɔlɛ, mimɔ ni fun Olɔhun ni owuro
kutukutu ati ni irɔlɛ, mimɔ ni fun Olɔhun ni owuro
kutukutu ati ni irɔlɛ, mo n fi Olɔhun wa isadi kuro ni

ḡḡḡ esu, ati igberaga rẹ, ati orin rẹ, ati isiwin rẹ ».
 Ahmed, ati Abu-Dee'usud, ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

٦- « اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، "وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ،" "وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ،" "وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،" "وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْحِسَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، " اللَّهُمَّ لَكَ أَسَلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أُنَبِّتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، " أَنْتَ الْمُقَدَّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، " أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ "». [متفق عليه].

[ALLAHUMMA LAKA -L-HAMDU ANTA NUURU -S-SAMAAWATI WA -L-ARDHI WA MAN FEEHINNA, WA LAKA -L-HAMDU ANTA QAYYIMU -S-SAMAAWATI WA -L-ARDHI WA MAN FEEHINNA, WA LAKA -L-HAMDU ANTA RABBU -S-SAMAAWATI WA -L-ARDHI WA MAN FEEHINNA, WA LAKA -

L-HAMDU LAKA MULKU -S-SAMAAWATI WA -L-ARDHI WA
 MAN FEEHINNA, WA LAKA -L-HAMDU ANTA MALIKU -S-
 SAMAAWATI WA -L-ARDH, WA LAKA -L-HAMDU ANTA -L-
 HAQQ, WA WA'ADUKA -L-HAQQ, WA QAWLUKA -L-HAQQ,
 WA LIQAA'UKA -L-HAQQ, WA -L-JANNATU HAQQ, WA -N-
 NAARU HAQQ, WA -N-NABIYYUUNA HAQQ, WA
 MUHAMMADUN HAQQ, WA -S-SAA'ATU HAQQ,
 ALLAHUMMA LAKA ASLAMTU, WA ALAIKA TAWAKKATU,
 WA BIKA AAMANTU, WA ILAIKA ANABTU, WA BIKA
 KHAASAMTU, WA ILAIKA HAAKAMTU, FA-G-FIR LEE MAA
 QADDAMTU, WA MAA AKH-KHARTU, WA MAA ASRARTU,
 WA MAA A'ALANTU, ANTA -L-MUQADDIM, WA ANTA -L-
 MU'AKHIR, LAA ILAAHA ILLA ANT, ANTA ILAAHEE LAA
 ILAAHA ILLA ANT].

« Ti Iwo Ọlọhun nikan ni gbogbo ọpẹ i se, Iwo ni
 Imọlẹ awọn sanma ati ilẹ ati awọn ti wọn n bẹ ninu
 wọn, Iwo l'O ni gbogbo ọpẹ, Iwo ni opo-mulero fun
 awọn sanma ati ilẹ ati awọn ti wọn n bẹ ninu wọn,
 Iwo nikan l'O ni gbogbo ọpẹ, Iwo ni Olowo gbogbo
 ohun ti n bẹ ni awọn sanma ati ilẹ ati awọn ti n bẹ
 ninu wọn, tiẸ nikan ni gbogbo ọpẹ i se Iwo ni Ọba
 awọn sanma ati ilẹ, Iwo nikan l'O ni gbogbo ọpẹ,
 Iwo ni Ododo, adehun Rẹ ni ododo, ọrọ Rẹ ni
 ododo, pipade Rẹ ni ododo, ati pe Al-Janna -ogba
 idẹra- ododo ni, ina naa ododo ni, ododo si ni awọn
 anabi Rẹ i se, bẹẹ ni ododo ni Anabi Muhammad
 "ike ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a", Iwo Ọlọhun ni

mo gbafa fun, Iwo si ni mo gbekete, Iwo ni mo
 gbagbo lododo, odo Re nikan si ni mo seri-pada si,
 odo Re ni mo ti n wa atileyin lati ba awon ti won
 tako tiE ja, odo Re nikan si ni mo ti n reti idajo, wa
 dari awon ese mi ti mo ti se siwaju jin mi, ati eyi ti
 mo se gbeyin, ati eyi ti mo se ni kolofin, ati eyi ti mo
 se ni gbangba, Iwo ni Qba ti I fa nnkan si iwaju ti I si
 fa a seyin, ko si qba kan ti o to lati fi ododo josin fun
 yatq si Q, Iwo ni Qlohun mi ti mo n sin, ko si qba
 kan ti o to lati josin fun lododo yatq si Q ». Bukhari ati
 Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NI RUKU

۱ - « سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ » ثلاث مرات. [رواه احمد واصحاب السنن].

[SUBHAANA RABBIYA -L-ADZEEM]; leçmeça.

« Mimq ni fun Oluwa mi Qba-titobi ». Ahmad ati awon on-
 tira Sunna l'o gbe e jade.

۲ - « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ». [متقدمه].

[SUBHAANAKA -L-LAHUMMA RABBANAA WA BI HAMDIKA -
 L-LAHUMMA -G-FIR LEE].

« Mimq ni fun Iwo Qlohun Oluwa wa, ope ni fun Q,
 Qlohun dari jin mi ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

۳ - « سُوحٌ، قُدُّوسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ». [رواه مسلم].

[SUBBUUHUN, QUDDUUSUN, RABBU -L-MALAAIKATI WA -R-
 RUUH].

« Amọ-kuro-ninu-gbogbo-aidaa, Oni-mimọ
Onibukun, Oluwa awọn Malaika ati Jibreel ». Muslim
l'o gbe e jade.

٤- « اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ اَمَنْتُ، وَلكَ اَسَلْتُ، حَتَّى
لَكَ سَمِعِي، وَبَصَرِي، وَمَخِي، وَعَظْمِي، وَعَصَبِي، وَمَا اسْتَقَلَّ
بِي قَدَمِي ». [روه سلما].

[ALLAHUMMA LAKA RAKA'ATU, WA BIKA AAMANTU, WA
LAKA ASLAMTU, KHASHI'A LAKA SAM'TEE, WA BASAREE,
WA MUKKHEE, WA ADZMEE, WA ASABEE, WA MAA -S-
TAQALLA BIHI QADAMEE].

« Iwọ Olọhun ni mo tẹ -ruku- fun, Iwọ si ni mo
gbagbo lododo, Iwọ ni mo gbafa fun, eti mi, oju mi,
opọlo mi, eegun ara mi, isan mi, ati ohun ti eṣe mi
gbe duro gbogbo wọn ni wọn tẹriba fun Iwọ
Olọhun». Muslim l'o gbe e jade.

٥- « مُسَبِّحَانَ ذِي الْحَبْرُوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ،
وَالْعَظْمَةِ ». [روه احمد، وابو داود، والنسائي].

[SUBHAANA DZEE -L-JABARUUT, WA -L-MALAKUUT, WA -L-
KIBRIYAA, WA -L-ADZAMAH].

« Mimọ ni fun Qba Olubori, Oni-ijọba, ati
motomoto, ati titobi ». Ahmad ati Abu-Dea'usud ati Nasaa'i l'o gbe
e jade.

ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BA GBE
ORI SOKE LATI RUKU

۱- « سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ». [ردء البخارى].

[SAMIA -L-LAHU LIMAN HAMIDAH].

« Qlq̄hun N gbọ ọpẹ ẹni ti n dupẹ fun Un ». Bukhari l'o gbe e jade.

۲- « رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ». [ردء

بخارى].

[RABBANAA WA LAKA -L-HAMD, HAMDAN KHATHEERAN TAYYIBAN MUBAARAKAN FEEH].

« Oluwa wa, tiE ni gbogbo ọpẹ i se, ni ọpẹ ti o dara ti O se ibukun fun ». Bukhari l'o gbe e jade.

۳- « مِلءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلءَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَمِثْلَ مَا

شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَحْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ،

وَكُلُّنَا لَنَا عَبْدٌ: اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا

مَتَّعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْحَدِّ مِنْكَ الْحَدُّ ». [ردء مسلم].

[MIL'A -S-SAMAAWATI WA MIL'A -L-ARDHI WA MAA BAINAHUMAA, WA MIL'A MAA SHI'TTA MIN SHAI'IN BA'AD, AHLA THANAA'I WA -L-MAJD. AHAQQU MAA QAALA -L-ABD, WA KULLUNAA LAKA ABD: LA MAANIA LIMAA A'ATAITA, WA LA MU'UTIYA LIMAA MANA'ATA, WA LA YANFAU DZA -L-JADDI MINKA -L-JADD].

« Ni ọpẹ ti o kun gbogbo awọn sanma ati ilẹ ati ohun ti n bẹ laarin mejeeji, ti o si tun kun ohun miiran ti O ba fẹ lẹyin awọn wọnyi, Iwọ ni Ọba ẹyin ati ogo; eyi ti o tọ ju ninu ohun ti ẹru Ọlọhun wi -bẹẹ ni ẹru Rẹ ni gbogbo wa jẹ- ni pe: Kò si ẹnikan ti o le di ọna ohun ti O ba pe ni tẹni, kò si si ẹnikan ti o le fun ni ni ohun ti O kọ lati fun ni, ati pe ọrọ ọlọrọ kan kò le e se e ni anfaani kankan rara Ọdọ Rẹ ». Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA FI ORI KANLE

۱- « سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى », ثلاث مرات. [رواه احمد واسحابه]

[SUBHAANA RABBIYA -L-A'ALAA]; lẹmẹta.

« Mimọ ni fun Oluwa mi Ọba ti O ga ju ». Ahmad ati awọn oni-tira Sunna l'o gbe e jade.

۲- « سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ». [يعقوب عليه].

[SUBHAANAKA -L-LAHUMMA RABBANAA WA BI HAMDIKA -L-LAHUMMA -G-FIR'LEE].

« Mimọ ni fun Iwọ Ọlọhun Oluwa wa, ọpẹ ni fun Ọ, Iwọ Ọlọhun dari jin mi ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

۳- « سُبُوْحٌ، قُدُّوْسٌ، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ ». [رواه مسلم].

[SUBBUUHUN, QUDDUUSUN, RABBU -L-MALAAIKATI WA -R-RUUH].

« Amọ-kuro-ninu-gbogbo-aidaa, Oni-mimọ
Onibukun, Oluwa awọn Malaika ati Jibreel ». Muslim
l'o gbe e jade.

« ۴ - اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلكَ أَسَلْتُ، سَجَدَ
وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللَّهُ
أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ». روه مسلم.

[ALLAHUMMA LAKA SAJADTU, WA BIKA AAMANTU, WA
LAKA ASLAMTU, SAJADA WAJHEE LI -L-LADZEE
KHALAQAHU, WA SAWWARAHU, WA SHAQQA SAM'A'HU,
WA BASARAHU, TABARAKA -L-LAHU AH'SANA -L-
KHAALIQEEN].

« Iwọ Qlọhun ni mo fi ori kanle fun, Iwọ ni mo
gbagbo lododo, Iwọ ni mo gbafa fun, oju mi teriba
fun Qlọhun ti O da a, ti O si ya aworan re, ti O si la
eti ati oju iriran re si ara re, ibukun ni fun Qlọhun
Qba ti O da awon eda Re ni ona ti o dara julọ ».
Muslim l'o gbe e jade.

« ۵ - سُُبْحَانَ ذِي الْعَرْشِوتِ، وَالْمَلَكُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ،
وَالْعَظْمَةِ ». [روه احمد، وأبو داود وسائلي].

[SUBHAANA DZEE -L-JABARUUT, WA -L-MALAKUUT, WA -L-
KIBRIYAA, WA -L-ADZAMAH].

« Mimọ ni fun Qba Olubori, Oni-ijoba, ati
motomoto, ati titobi ». Ahmad ati Abu-Daa'uud ati Nasaa'i l'o gbe
e jade.

٦- « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّةً، وَجِلَّةً، وَأَوَّلَهُ، وَآخِرَهُ،
وَعَلَاكِيَّتَهُ، وَسِرَّهُ ». [رواه مسلم].

[ALLAHUMMA -G-FIR'LEE DZAMBEE KULLAHU, DIQQAHU
WA JILLAHU, WA AWWALAHU WA AAKHIRAHU, WA
ALAANIYATAHU, WA SIRRAHU].

« Ọlọhun dari gbogbo awọn ẹsẹ mi jin mi, eyi ti o wẹ
ninu wọn, ati eyi ti o tobi, akọkọ wọn, ati eyi ti o
gbeyin, eyi ti mo da ni gbangba, ati eyi ti mo sẹ ni
ikọkọ ». Muslim l'ọ gbe e jade.

٧- « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِعَافَاتِكَ مِنْ
عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا
أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ ». [رواه مسلم].

[ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BI RIDHAAKA MIN
SAKHATIK, WA BI MU'AAFAATIKA MIN UQUUBATIK, WA
AUUDZU BIKA MINKA LAA UH'SEE THANAA'AN ALAIKA
ANTA KAMA ATH'NAITA ALAA NAFSIK].

« Iwọ Ọlọhun mo n fi iyọnu Rẹ wa isadi kuro nibi
ibinu Rẹ, mo si n fi amojukuro Rẹ wa isadi kuro nibi
iya Rẹ, mo si n fi Ọ wa isadi ni ọdọ ara Rẹ, kò si bi
mo ti se le yin Ọ ti o le da gẹgẹ bi O ti se yin ara
Rẹ ». Muslim l'ọ gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BA
JOKOO LAARIN IFORIKANLE MEJEEJI

۱- « رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي ». [رواه أبو داود، وابن ماجه].

[RABBI -G-FIR'LEE, RABBI-G-FIR'LEE].

« Oluwa mi fori jin mi, Oluwa mi fori jin mi ». Abu-Daa'uud ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

۲- « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَاجْبِرْنِي، وَعَافِنِي،
وَارْزُقْنِي، وَارْقُنِي ». [رواه أبو داود وقرمدي وابن ماجه].

[ALLAHUMMA -G-FIR'LEE, WA -R-HAMNEE, WA -J-BURNEE,
WA -H-DINEE, WA AAFINEE, WA -R-ZUQNEE, WA -R-
FA'A'NEE].

« Olohun fori jin mi, ke mi, fi ona mo mi, mu osi mi kuro, fun mi ni alaafia, ro mi loro, se agbega fun mi ». Abu-Daa'uud ati Al-Tirmidziyyu ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA T'O BA FI
ORI KANLE NI OKAN NINU AWON AYE TI A
TI MAA N FI ORI KANLE NIGBA TI A BA N
KE AL-QUR'AAN ALAPONLE

۱- « سَحَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ
وَقُوَّتِهِ، ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ ». [رواه أحمد، وقرمدي،
والحاكم].

[SAJADA WAJHEE LI -L-LADZEE KHALAQAHU, WA SHAQQA SAM'A'HU WA BASARAHU BI HAWLIHI WA QUWWATIHI, "FATABAARAKA -L-LAHU AH'SANA -L-KHAALIQEEN"].

« Oju mi t̄riba fun Èni ti O da a, ti O si la eti ati oju iriran r̄ si ara r̄ p̄lu oḡb̄on ati aḡbara R̄, "Ibukun ni fun Q̄l̄ohun Q̄ba ti O da aw̄on ̄da R̄ ni ̄na ti o dara jul̄o"». Ahmad ati Al-Tirmidziyyu ati Haakim l'ò gbe e jade.

٢- «السَّلَامُ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وَزْرًا،
وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقْبَلْهَا مِنِّي كَمَا تَقْبَلْتَنِي مِنْ عِبْدِكَ
ذَاوُدَ». [رواه الترمذی، والحاكم]

[ALLAHUMMA -K-TUB'LEE BIHAA INDAKA AJRAN, WA DHA'A ANNEE BIHAA WIZRAN, WA -J-ALHAA LEE INDAKA DZUKHRAN, WA TAQABBALHAA MINNEE KAMAA TAQABBALTA MIN ABDIKA DAA'UUD].

« Q̄l̄ohun k̄p̄ ̄san r̄ sil̄ fun mi l̄oḡo R̄, ki O si ba mi fi pa oḡan ninu aw̄on ̄s̄ mi r̄, ki O si se e fun mi ni ere ti a gbe pam̄o si oḡo R̄, wa gba a l̄sin fun mi ̄ḡeḡe bi O ti se gba a l̄sin fun ̄ru R̄ Anabi Daa'uud »). Al-Tirmidziyyu ati Haakim l'ò gbe e jade

ATAAYA

« التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالْعَطِيَّاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ،

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .
[سنة عليه]

[ATTAAHIYYAATU LI-L-LAH, WA -S-SALAWAAT, WA -T-TAYYIBAAT, ASSALAMU ALAIKA AYYUHAA -N-NABIYYU WA RAHMATU -L-LAHI WA BARAKAATUHU, ASSALAMU ALAINAA WA ALAA IBAADI -L-LAHI -S-SAALIHEEN, ASH'HADU AN LAA ILAA ILLA -L-LAHU WA ASH'HADU ANNA MUHAMMADAN ABUDHU WA RASUULUH].

« Gbogbo kiki ti Olohun ni i se, gbogbo irun ti Olohun ni, ati pe gbogbo daadaa ti Olohun ni, alaafia Olohun, ati ike Re ati oore Re k'o maa ba iwọ Anabi, alaafia "Olohun Naa" ki o maa ba awa ati awon eru Olohun oluse-rere, mo jeri pe ko si o ba kan ti o to lati sin lododo yatọ si Olohun, mo si tun jeri pe Anabi Muhammad eru Olohun ni ojise Re si ni pelu ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

ASALATU TI ENIYAN O SE FUN ANABI WA
IKE ATI OLA OLOHUN K'O MAA BA A
LEYIN ATAYA

۱ - « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .» [رواه البخاري]

[ALLAHUMMA SALLI ALAA MUHAMMADIN WA ALAA AALI MUHAMMADIN, KAMAA SALLAITA ALAA IBRAHEEMA WA ALAA AALI IBRAHEEMA INNAKA HAMEEDUN MAJEED, ALLAHUMMA BAARIK ALAA MUHAMMADIN WA ALAA AALI MUHAMMADIN, KAMAA BAARAKTA ALAA IBRAHEEMA WA ALAA AALI IBRAHEEMA INNAKA HAMEEDUN MAJEED].

« Qlqhun ke Anabi Muhammad ati awqon ara ile Anabi Muhammad, geqe bi O ti se ke Anabi Ibrahim ati awqon ara ile Anabi Ibrahim, dajudaju Iwo ni Qba-eyin Qba-titobi, Qlqhun Qba se ibukun fun Anabi Muhammad ati awqon ara ile Anabi Muhammad, geqe bi O ti se ibukun fun Anabi Ibrahim ati awqon ara ile Anabi Ibrahim, dajudaju Iwo ni Qba-eyin Qba-titobi ». Bukhari l'ogbe e jade.

٢- «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ خَمِيدٌ مَّحِيدٌ.»
[سفر علی]

[ALLAHUMMA SALLI ALAA MUHAMMADIN WA ALAA AZWAAJIHI WA DZURRIYYATIHI, KAMAA SALLAITA ALAA AALI IBRAHEEM, WA BAARIK ALAA MUHAMMADIN WA ALAA AZWAAJIHI WA DZURRIYYATIHI, KAMAA BAARAKTA ALAA AALI IBRAHEEM, INNAKA HAMEEDUN MAJEED].

« Qlqhun ke Anabi Muhammad ati awqon iyawo re ati awqon arqmqdqm qe, geqe bi O ti ke Anabi Ibrahim

ati awon ara ile Anabi Ibrahim, se ibukun fun Anabi Muhammad ati awon iyawo re ati awon aramodomomo re, gege bi O ti se ibukun fun Anabi Ibrahim ati awon ara ile Anabi Ibrahim, dajudaju Iwo ni Obayin Qba-titobi ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN O SE LEYIN ATAYA
SIWAJU KI O TOO SALAMA

١- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ.»
[سنة منه]

[ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BIKA MIN ADZAABI -L-QABR, WA MIN ADZAABI JAHANNAM, WA MIN FITNATI -L-MAHYAA WA -L-MAMAAT, WA MIN SHARRI FITNATI -L-MASEEHI -D-DAJJAAL].

« Mo n fi Iwo Qlohun wa isadi nibi iya saare, ati nibi iya ina jahannama, ati nibi amiwo isemi ati ti iku, ati nibi aburu arito Maseeh Ad-Dajjaal "opuro olojukan" ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

٢- «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.» [سنة منه].

[ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BIKA MIN ADZAABI -L-QABR, WA AUUDZU BIKA MIN FITNATI -L-MASEEHI -D-DAJJAAL,

WA AUUDZU BIKA MIN FITNATI -L-MAHYAA WA -L-
MAMAAT, ALAHUMMA INNEE AUUDZU BIKA MINA -L-
MA'ATHAMI WA -L-MAGRAM].

« Mo n fi Iwo Ọlọhun wa isadi nibi iya saare, ati nibi arito Maseeh Ad-Dajjaal “opuro olojukan”, mo si n fi Ọ wa isadi nibi amiwo isemi ati ti iku, Ọlọhun mo n fi Ọ wa isadi nibi esese ati gbese ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

۳- « اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاعْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ». [سنن له].

[ALLAHUMMA INNEE DZALMTU NAFSEE DZULMAN KHATHEERAN, WA LA YAGFIRU DZUNUUBA ILLA ANTA FAGFIR LEE MAGFIRATAN MIN INDIK, WA -R-HAMNEE INNAKA ANTA -L-GAFUURU -R-RAHEEM].

« Dajudaju Iwo Ọlọhun, mo ti se abosi fun ori ara mi ni abosi ti o tobi, enikan ki i si se aforijin esese fun ni yatọ si Ọ, se aforijin fun mi ni aforijin kan lati ọdọ Re, k'O si ke mi, dajudaju Iwo ni Alaforijin Alaaanu». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

۴- « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أُخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ». [رواه مسلم].

[ALLAHUMMA -G-FIR LEE MAA QADDAMTU, WA MAA AKH-KHARTU, WA MAA ASRARTU, WA MAA A'ALANTU, WA MAA ASRAFTU, WA MAA ANTA A'ALAMU BIHI MINNEE, ANTA -L-MUQQADIM, WA ANTA -L-MUAKHIR, LAH ILAA ILLA ANT].

« Olohun dari awon esẹ ti mo ti se siwaju jin mi, ati eyi ti mo se gbeyin, ati eyi ti mo se ni kolofin, ati eyi ti mo se ni gbangba, ati eyi ti mo ti tayọ enu-ala, ati eyi ti O mo nipa re ju mi lo, Iwo ni Oba ti I fa nnkan si iwaju ti I si fa a seyin, ati pe ko si Oba kan ti o to lati fi ododo josin fun yatọ si O ». Muslim l'o gbe e jade.

« اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحَسَنِ عِبَادَتِكَ ».

[روه ابو داود وصححه]

[ALLAHUMMA A'INNEE ALAA DZIKRIKA WA SHUKRIKA WA HUSNI IBAADATIK].

« Olohun se atileyin fun mi lati maa se iranti Re, ati lati maa fi ope fun O, ati lati maa josin fun O ni ona ti o dara ». Abu-Daa'ood ati An-Nasaa'i l'o gbe e jade.

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَسَنِ،

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْضِ الْعُمَرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ

الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ ». [روه البخاري]

[ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BIKA MINA -L-BUKH'L, WA AUUDZU BIKA MINA -L-JUBUN, WA AUUDZU BIKA MIN AN

URADDA ILAA ARDZALI -L-UMUR, WA AUUDZU BIKI MIN FITNATI -D-DUNIYAA WA ADZAABI -L-QABR].

« Mo sadi Iwo Qlohun nibi ahun, ati nibi oḷe, ati nibi ki n je ɛni ti a o da pada si eyi ti o buru ju ninu ogbo, mo si n fi Q wa isadi nibi amiwo ile-aye ati nibi iya SBARE ». Bukhari l'o gbe e jade.

٧- « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْحَيَّةَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ ». [رده ابو بلود ابن ماجه].

[ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA -L-JANNAH, WA AUUDZU BIKI MINA -N-NAAR].

« Mo n toro Al-janna -ogba idera- loḷo Iwo Qlohun, mo si n sadi Re nibi ina ». Abu-Daa'uud ati Ibn maajah l'o gbe e jade.

٨- « اللَّهُمَّ بَعِّدْ عَنِّي الْغَيْبَ وَقُدِّرْ لِي عَلَى الْخَلْقِ أَحْسَنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْرًا لِي، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حَشِيَّتِكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْعُضْبِ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْقُذُ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْفُضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ

ضَرَاءَ مُضِرَّةٍ وَلَا فِتْنَةَ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا زَيِّنَا بِرَبِّتِهِ الْإِيمَانَ
وَأَجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ ۝. [رواه أحمد والشافعي].

[ALLAHUMMA BI'ILMIKA -L-GAIBA WA QUDRATIKA ALAA -L-
KHALQI AHYINEE MAA ALIMTA -L-HAYAATA KHAIRAN LEE,
WA TAWAFFANEE IDZAA ALIMTA -L-WAFAATA KHAIRAN
LEE, ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA KHASHYATAKA FEE -L-
GAIBI WA -SH-SHAHAADAH, WA AS'ALUKA KALIMATA -L-
HAQQI FEE -R-RIDHAA WA -L-GADHAB, WA AS'ALUKA -L-
QASDA FEE -L-GINAA WA -L-FAQR, WA AS'ALUKA
NAT'EEMAN LAA YANFAD, WA AS'ALUKA QURRATA AININ
LAA TANQATI, WA AS'ALUKA -R-RIDHAA BA'ADA -L-
QADAA, WA AS'ALUKA BARDA -L-AISHI BA'ADA -L-MAWT,
WA AS'ALUKA LADZATA -N-NADZARI ILAA WAJHIKA WA
SH-SHAWQA ILAA LIQAA'IKA FEE GAIRI DHARRAA'A
MUDHIRRATIN WA LAA FITNATIN MUDHILLATIN,
ALLAHUMMA ZAYYINNA BI ZEENATI -L-IMAANI WA -J-
ALNAA HUDAATAN MUHTADEEN].

« Iwo Qlohun mo n fi imo ti O ni nipa ikoko ati
agbara Re lati da eda be O pe ki O je ki n maa semi
lopin igba ti O ba mo wi pe isemi l'o ni oore ju fun
mi, ki o si pa mi nigba ti O ba mo wi pe iku l'o ni
oore ju fun mi, Qlohun mo n toro pe ki O se mi ni
eni ti yoo maa paya Re ni ikoko ati ni gbangba, mo
si n toro pe ki O maa fun mi ni ododo so ni asiko
idunnu ati ibinu, mo si n toro pe ki O fun mi ni

iwontunwonsi se ni igba ti mo ba wa ninu orọ ati nigba ti mo ba wa ninu aini, mo si n toro awon idera ti ki i tan lodọ Re, mo si n toro itutu oju ti ki i ja lodọ Re, mo si n toro pe ki O fun mi ni iyonu leyin akosile, mo si n toro pe ki O fun mi ni isemi ti o rorun se leyin iku, mo si n toro lodọ Re pe ki o fun mi ni adun wiwo oju Re, ati ijeran atipade Re laisi isoro ti i ni ni lara, tabi amiwo ti i si ni lona, Qlohun se wa loso pelu oso igbagbo-ododo "Imaani", se wa ni olumona ti i fi ni mona ». Ahmad ati An-Nasaa'i l'o gbe e jade

٩ - « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ بِأَنَّكَ الرَّاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ
الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفْوًا أَحَدًا، أَنْ تَغْفِرَ لِي
ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ » . [رواه احمد وسائر]

[ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA YAA ALLAHU BI'ANNAKA -
L-WAAHIDU -L-AHADU -S-SAMADU -L-LADZEE LAM YALID
WA LAM YUULAD WA LAM YAKUN LAHU KUFWAN AHAD,
AN TAGFIRA LEE DZUNUUBEE INNAKA ANTA -L-GAFUURU -
R-RAHEEM].

« Iwo Qlohun mo n toro ni odọ Re pe dajudaju Iwo ni Oba-Aso ti O je Okan-soso, Oba ti a n ronun kan, Oba ti ko bimọ ti enikan ko si bi I, ati pe ko si enikan ti o jo O, pe ki O se aforijin awon esẹ mi fun mi, dajudaju Iwo ni Alaforijin Alaaanu ». Ahmad ati An-Nasaa'i l'o gbe e jade

-S-SAMADU -L-LADZEE LAM YALID WA LAM YUULAD, WA LAM YAKUN LAHU KUFWAN AHAD].

« Olohun, mo n toro loḍo Re pe mo jeri pe Iwo ni Olohun, ko si oḅa kan ti o to lati fi ododo josin fun yatḍ si O, Oḅa Oḅan-soso, Oḅa ti a n ronun kan, Oḅa ti ko bimḍ ti enikan ko si bi I, ati pe ko si enikan ti o jḍ O » . Ahmad ati Abu-Daa'uud ati At-Tirmidziyya ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN O SE LEYIN IGBA TI O BA SALAMA 'LEYIN IRUN'

١ - « أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ » [ثَلَاثًا]، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ». [رواه مسلم].

[ASTAGFIRU -L-LAH]; Iḅemeta.

« Mo n toro aforijin loḍo Olohun ».

[ALLAHUMMA ANTÀ -S-SALAAM, WA MINKA -S-SALAAM, TABAARAKTA YAA DZA -L-JALAALI WA -L-IKRAAM].

« Iwo Olohun ni Oḅa Alaafia, oḍo Re ni alaafia ti n wa, ibukun ni fun O, Oḅa ti O ni titobi ati apḍnle ». Muslim l'o gbe e jade.

٢ - « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيٍّ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْحَدِّ مِثْلَ الْحَدِّ ». [متفق عليه].

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH, LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMDU WA HUWA ALAA

KULLI SHAIN IN QADEER, ALLAHUMMA LAA MAANI'A LIMAA A'ATAIT, WA LAA MU'UTIYA LIMAA MANA'AT, WA LAA YANFA'U DZA -L-JADDI MINKA -L-JADD].

« Kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun nikan soso, kò si orogun kan fun Un, Oun l'O ni gbogbo ijọba ati gbogbo ọpẹ, Oun si ni Alagbara lori gbogbo nnkan, Iwọ Ọlọhun kò si ẹnikan ti o le dina ohun ti O ba pe ni tẹni, kò si si ẹnikan ti o le fun ni ni nnkan ti O kọ lati fun ni, ati pe ọrọ ọlọrọ kan kò le se e ni anfaani ọdọ Rẹ ».

Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

۳- « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا تَعْبُدْ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَهُوَ الْفَعْلُ وَهُوَ الشَّاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ». [ردہ سہ]

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH, LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMDU WA HUWA ALAA KULLI SHAIN IN QADEER, LAA HAWLA WA LAA QUWWATA ILLA BI -L-LAH, LAA ILAAHA ILLA -L-LAH, WA LAA NA'ABUDU ILLA IYYAH, LAHU -N-NI'IMATU WA LAHU -L-FADHLU WA LAHU -TH-THANA'AU -L-HASAN, LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU MUKHLISEENA LAHU -D-DEENA WA LAW KARIHA -L-KAAFIRUUN].

« Kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun nikan soso, kò si orogun kan fun Un, Oun l'O ni gbogbo ijọba ati gbogbo ọpẹ, Oun si ni Alagbara lori gbogbo nnkan, kò si ọgbọn kan, bẹẹ ni kò si agbara kan leyin Ọlọhun, kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun, awa kò ni i jọsin fun ẹlomiran t'o yatọ si I, Oun l'O ni gbogbo idera ati gbogbo ajulo, tiE si ni gbogbo ẹyin daadaa i se, kò si ọba kan ti o tọ pe ki a fi ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun, awa o maa se afọmọ ẹsin wa fun Un awon alaigbagbo i baa ma fe bẹẹ ».

Muslim l'o gbe e jade

4- « سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، [ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ]، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَهُوَ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ».

[رواه مسلم]

Yoo so pe: [SUBHAANA -L-LAH, WA -L-HAMDU LI -L-LAH, WA -L-LAHU AKBAR], ni igba metalelogbon, leyin naa ni yoo wa so pe: [LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHAHU LAA SHAREEKA LAH, LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMDU WA HUWA ALAA KULLI SHAIN IN QADEER].

5- Eniyan yoo maa ka awon kewu ti n bo wonyi leyin gbogbo irun kọkan:-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ قل هو الله أحد ﴾ ﴿ الله الصمد ﴾ ﴿ لم يلد ولم يولد ﴾ ﴿ ولم يكن له كفوا أحد ﴾

BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL HUWA -L-LAHU AHAD* ALLAHU -S-SAMAD* LAM YALID WA LAM YUULAD* WA LAM YAKUN LAHU KUFWAN AHAD].

Ni oruko Olohun Oba Alaanujulo Aladipele-esan-rere « So pe: Oun ni Olohun Oba Okan-soso. Olohun ni Oba ti a maa n ronun kan. Ko bimọ, beẹ ni enikan o bi I. Ati pe ko si enikan ti o jo O ».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَالَمِ ﴿٢﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ خَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٥﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٦﴾ .

BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL AUUDZU BI RABBI -L-FALAQ* MIN SHARRI MAA KHALAQ* WA MIN SHARRI GAASIQIN IDZAA WAQAB* WA MIN SHARRI -N-MAFAATHAATI FEE ' -L-UQAD* WA MIN SHARRI HAASIDIN IDZAA HASAD].

Ni oruko Olohun Oba Alaanujulo Aladipele-esan-rere « So pe: Mo sadi Oluwa owuro kutukutu. Kuro nibi aburu ohun ti O da. Ati kuro nibi aburu oru nigba ti o ba su biribiri. Ati kuro nibi aburu awon opidan ti won maa n pofu sinu koko [ti won maa n ta]. Ati kuro nibi aburu onilara nigba ti o ba n se ilara ».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ مِنْ شَرِّ مَا
 خَلَقَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِينَ إِذَا وَقَبَ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي
 الْعُقَدِ ﴿٥﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٦﴾ .

BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL AUUDZU BI
 RABBI -N-NAAS* MALIKI -N-NAAS* ILAAHI -N-NAAS*
 MIN SHARRI -L-WASWAASI -L-KHANNAAS* AL-LADZEE
 YUWASWISU FEE SUDUURI -N-NAAS* MINA -L-JINNATI
 WA -N-NAAS].

Ni oruko Olohun Oba Alaaanujulo Aladipele-esan-
 rere « So pe: Mo sadi Oluwa awon eniyan. Oba
 awon eniyan. Olohun awon eniyan. Kuro nibi aburu
 iroyiroyi esu ti o n sapamo [sinu okan]. Eni ti maa n
 so iroyiroyi sinu igbaaya awon eniyan. Laarin awon
 alujannu ati awon eniyan ».

6- Yoo tun maa ka aayah yii leyin irun koqkan:-

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَمْ يَلِدْ
 وَلَمْ يُولَدْ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِي يَدَيْهِ يَسْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ
 أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ
 كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ .

[ALLAHU LAA ILAAHA ILLA HUWA -L-HAYYU -L-QAYYUMU LAA TA'AKHUDZUHU SINATUN WA LAA NAWMUN LAHU MAA FEE -S-SAMAAWAATI WA MAA FEE -L-ARDHI MAN DZA -L-LADZEE YASHFAU INDAHU ILLA BI IDZNIHI YA'ALAMU MAA BAINA AIDIHIM WA MAA KHALFAHUM WA LAA YUHEETUUNA BI SHAIN IN MIN ILMIHI ILLA BI MAA SHAA'A WASIA KURSIYYUHU -S-SAMAAWAATI WA -L-ARDHA WA LAA YA'UUDUHU HIFDZUHUMAA WA HUWA -L-ALIYYU -L-ADZEEM].

« Allahu "Qlqhun", kò si qba kan ti o tọ lati fi ododo jòsin fun yatọ si I, Alaaaye, Oludawa, ki I toogbe, beę ni ki I sun rara. TiE ni gbogbo ohun t'o wa ni sanma ati ohun t'o wa niE. Enikan kò ni i le sipe ni odo Re, afi pelu iyonda Re. O mo ohun ti n be niwaju won ati ohun ti n be leyin won, ati pe won kò ni i le rokirika nkan kan ninu imo Re afi ohun t'o ba fe, aga Re gbaye ju awon sanma ati ile lo. Beę ni iso awon mejeeji kò ko aare ba A. Oun ni Qba-giga, Qba-titobi ».

7- Yoo si maa wi awon gbolohun ti n bo wonyi ni eemewa leyin irun Magrib ati irun Asuba:-

" لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " . [رواه احمد وقرمذی]

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDHU LAA SHAREEKA LAH,
LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMDU YUHYEE WA YUMEET,
WA HUWA ALAA KULLI SHAIN IN QADEER].

« Kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yato si
Ọlọhun nikan soso, kò si orogun fun Un, Oun l'O ni
akoso ati ọpẹ, Oun ni I mu ni sẹmi, bẹẹ ni Oun naa
ni I pa ni, Oun si ni Alagbara lori gbogbo nnkan ».

Ahmad ati At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

8- Yoo si maa wi awọn gbolohun ti n bọ wọnyi lẹyin
ti o ba salama ni irun Asuba:-

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا
مُتَقَبَّلًا ». [Izzat ibn Saad]

[ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA ILMAN NAAFIAN, WA
RIZQAN TAYYIBAN, WA AMALAN MUTAQABBALAN].

« Iwo Ọlọhun, mo n tọrọ imọ alanfaani lodo Rẹ, ati
oro ti o dara, ati isẹ ti yoo jẹ atẹwogba ». Ibn Maajah l'o
gbe e jade.

**ADUA IRUN ATITORO OORE [TITORO
LODO OLOHUN PE KI O DARI ENI LO SIDI
OHUN TI O LOORE LAYE ATILORUN]**

Jaabir Ibn Abdullah, 'ki Ọlọhun O yonu si
awọn mejeeji', so pe: Ojise Ọlọhun "ki ikẹ ati ọla
Ọlọhun o maa ba a" a maa kọ wa ni bi a o ti se maa
wa imọ nipa oore ti n bẹ ninu gbogbo nnkan, gege bi
o ti se maa n kọ wa ni ọgba-oro "Suura" Al-Qur'aan,
a maa so pe: « Ti ẹnikan yin ba se akolekan atise

nnkan kan, ki o ki raka meji yatọ si irun ọranyan,
leyin naa ki o maa sọ pe:

" اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَحِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ
مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ،
وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ
[ويسمي حاجته] خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي [أو
قال: عَاجِلِهِ وَأَجَلِهِ] فَأَقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ،
وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ
أَمْرِي [أو قال: عَاجِلِهِ وَأَجَلِهِ] فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ
وَأَقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ * [رواه البخاري].

[ALLAHUMMA INNEE ASTAKHEERUKA BI ILMIK, WA
ASTAQDIRUKA BI QUDRATIK, WA AS'ALUKA MIN FADHLIKA
-L-ADZEEM, FA INNAKA TAQDIRU WA LA A QDIR, WA
TA'ALAM WA LA A'ALAM, WA ANTA ALLAAMU -L-
GUYUUB, ALLAHUMMA IN KUNTA TA'ALAMU ANNA
HAADZAA -L-AMRA [*Yoo sọ ohun ti o fẹ se naa ni ibi
yii*] KHAIRUN LEE FEE DEENEE WA MA'AASHEE WA
AAQIBATI AMREE, [AAJILIH I WA AAJILIH I] FAQDIRHU LEE
WA YASSIRHU LEE THUMMA BAARIK LEE FEEH, WA IN
KUNTA TA'ALAMU ANNA HAADZAA -L-AMRA SHARRUN LEE
FEE DEENEE WA MA'AASHEE WA AAQIBATI AMREE,

[AAJILIHU WA AAJILIHU] FASRIFHU ANNEE WA -S-RIFNEE ANHU WA -Q-DUR LIYA -L-KHAIRA HAITHU KAANA THUMMA ARDHINEE BIHI]:

« Iwọ Ọlọhun, mo n fi imọ Rẹ tọrọ oore Rẹ, mo si n fi agbara Rẹ tọrọ agbara -ati ikapa- ọdọ Rẹ, mo si n tọrọ ọdọ Rẹ ninu ajulo Rẹ ti o tobi, nitori wi pe Iwọ ni O lagbara “lati se ohun-kohun” emi kò ni agbara, Iwọ l’O mọ, emi kò mọ, Iwọ ni Olumọ nipa gbogbo ikọkọ, ti Iwọ Ọlọhun ba mọ wi pe ohun ti mo fẹ se yii [ibi ni a sọ pe yoo ti wi ohun ti o fẹ se] oore ni yoo jẹ fun mi ni ọrun mi ati ni igbesi-aye mi ati atunṣotan ọrọ mi, kọ akoolẹ rẹ fun mi, si se e ni irọrun fun mi, wa fi oore si i fun mi; sugbọn ti o ba mọ wi pe aburu ni nnkan yii yoo jẹ fun mi ni ọrun mi ati ni igbesi-aye mi ati atunṣotan ọrọ mi, ba mi sẹri rẹ kuro ọdọ mi, ki O si sẹri mi kuro ọdọ rẹ, ki O wa kọ akoolẹ eyi ti o dara ju fun mi nibikibi ti o ba wa, ki O si yọ mi ninu pẹlu rẹ ».

«Eni ti o tọrọ oore [ti n bẹ ninu ohun ti o fẹ se] ọdọ Eleda, ti o si gba imọran ọdọ awọn ti wọn jẹ olugbagbọ-ododo ninu awọn ẹda Ọlọhun, ti o si fi ara balẹ lori ọrọ rẹ -ti ko kanju-, kò ni i se abamọ tori pe Ọlọhun Ọba-mimọ sọ pe:

﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ﴾ [سورة آل عمران :

. [۱۵۹

« Maa se ijiroro lori ọrọ naa pẹlu wọn, nigba ti o ba wa pinnu [lati gbe igbese kan] ba Ọlọhun duro ».
 Qur'an [3:159].

AWON ADUA ORU ATI TI OSAN

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحَدَّثَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Ọpẹ ni fun Ọlọhun, ikẹ ati ọla Ọlọhun k'o maa ba ẹni ti kò si anabi miiran leyin ẹ.

١ - أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
 الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا فِئًا وَلَا مَبْعَدًا
 مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
 وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ
 وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿ ﴿١٠٠﴾

AUUDZU BI -L-LAHI MINA -SH-SHAITAANI -R-RAJEEM:
 [ALLAHU LAA ILAAHA ILLA HUWA -L-HAYYU -L-
 QAYYUUMU LAA TA'AKHUDZUHU SINATUN WA LAA
 NAWMUN LAHU MAA FEE -S-SAMAAWAATI WA MAA
 FEE -L-ARDHI MAN DZA -L-LADZEE YASHFAU INDAHU
 ILLA BI IDZNIHI YA'ALAMU MAA BAINA AIDIHIM WA
 MAA KHALFAHUM WA LAA YUHEETUUNA BI SHAIN IN
 MIN ILMIHI ILLA BI MAA SHAA'A WASIA KURSIYYUHU -

**S-SAMAAWATI WA -L-ARDHA WA LAH YA'UUDUHU
HIFDZUHUMAA WA HUWA -L-ALIYYU -L-ADZEEM].**

2- Yoo ke okokan ninu awon Suura ti n bo wonyi ni
çemeta:-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿٢﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٣﴾
لَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾ .

BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL HUWA -L-
LAHU AHAD* ALLAHU -S-SAMAD* LAM YALID WA LAM
YUULAD* WA LAM YAKUN LAHU KUFWAN AHAD].

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْعَلَقِ ﴿٢﴾ مِنْ شَرِّ مَا
خَلَقَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي
الْعُقَدِ ﴿٥﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٦﴾ .

BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL AUUDZU BI
RABBI -L-FALAQ* MIN SHARRI MAA KHALAQ* WA MIN
SHARRI GAASIQIN IDZAA WAQAB* WA MIN SHARRI -N-
NAFAATHAATI FEE -L-UQAD* WA MIN SHARRI
HAASIDIN IDZAA HASAD].

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿٢﴾ مَلِكٍ ﴿٣﴾
النَّاسِ ﴿٤﴾ إِلَهٍ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَفَّاسِ ﴿٦﴾
الَّذِي يُوسَسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٧﴾ .

BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL AUUDZU BI RABBI -N-NAAS* MALIKI -N-NAAS* ILAHI -N-NAAS* MIN SHARRI -L-WASWAASI -L-KHANNAAS* AL-LADZEE YUWASWISU FEE SUDUURI -N-NAAS* MINA -L-JINNATI WA -N-NAAS].

۳- « أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ ». [ردء سلم].

[ASBAHNA WA ASBAHA -L-MULKU LI -L-LAH, AL-HAMDU LI -L-LAH, LAA ILAHA ILLA -L-LAHU WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH, LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMDU WA HUWA ALAA KULLI SHAIN IN QADEER, RABBI AS'ALUKA KHAYRA MAA FEE HAADZA -L-YAWMI WA KHAYRA MAA BA'ADAH, WA AUUDZU BIKA MIN SHARRI MAA FEE HAADZA -L-YAWMI WA SHARRI MAA BA'ADAH, RABBI AUUDZU BIKA MIN ADZAABIN FEE -N-NAARI WA ADZAABIN FEE -L-QABR].

« A ji saye, akoso naa si ji fun Qlqhun, ope ni fun Qlqhun, ko si o ba kan ti o to lati fi ododo josin fun yatq si Qlqhun nikan soso, ko si orogun kan fun Un,

tiE ni ọla i se, beẹ ni Oun l'O ni gbogbo eyin, ati pe Oun ni Alagbara lori gbogbo nnkan, Oluwa mi mo n toṣo oore ti n be ninu ojo oni loḍo Re, ati oore ohun ti n be leyin re, mo si n sadi Re nibi aburu ti n be ninu ojo oni, ati aburu ohun ti n be leyin re, Oluwa mi mo n fi O wa isadi nibi oroju, ati aburu ogbo, Oluwa mi mo n sadi Re nibi iya kan ninu ina ati nibi iya kan ninu saare ». Muslim l'o gbe e jade.

٤- « اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَبِكَ النُّشُورُ » . [رواه الترمذی].

[ALLAHUMMA BIKA ASBAHNAA, WA BIKA AMSAI'NAA, WA BIKA NAHYAA WA BIKA NAMUUT, WA ILAIKA -N-NUSHUUR].

« Iwo Olohun l'O mu wa ji saye, Iwo Naa l'O mu wa di irowo, Iwo l'O N mu wa serni, Iwo naa l'O pa wa, beẹ ni oḍo Re ni igbende gbogbo eḍa yoo je ». Al-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

٥- « اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَنْوَأُ لَكَ بِعَمَلِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذُنُوبِي فَأَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ » .

[ALLAHUMMA ANTA RABBEE LAA ILAAHA ILLA ANT, KHALAQTANEE WA ANA ABDUK, WA ANA ALAA A'ADIKA

WA WA'ADIKA MAA -S-TATA'AT, AUUDZU BIKA MIN SHARRI MAA SANA'ATU, ABUU'U LAKA BI-NI'IMATIKA ALAIYYA, WA ABUU'U LAKA BI-DZAMBEE FAGFIR'LEE FA-INNAHU LAA YAGFIRU -D-DZUUBA ILLA ANTA].

« Iwọ Ọlọhun ni Oluwa mi kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si O, Iwọ l'O da mi, ẹru Rẹ ni mi, mo n bẹ lori majẹmu Rẹ ati adehun Rẹ ni odiwọn bi mo ti se lagbara mọ, mo n fi Ọ wa isadi nibi aburu ohun ti mo se, mo gba wi pe O se awọn idẹra Rẹ le mi lori, mo si n jẹwo awọn ẹsẹ mi fun Ọ, se aforijin fun mi, tori pe kò si ẹnikan ti i se aforijin awọn ẹsẹ ẹni fun ni yato si Ọ ». Bukhari l'o gbe e jade.

٦- « اللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ أَشْهَدُكَ وَأَشْهَدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَمَلَائِكَتَكَ وَحَمِيمَ خَلْقِكَ، إِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحَدِّدْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ».

[أربع مرات]. [رواه أبو داود وعنه].

[ALLAHUMMA INNEE ASBAHTU USH'HIDUKA WA USH'HIDU HAMALATA ARSHIK, WA MALAAIKATAKA WA JAMI'EE'A KHALKIK, ANNAKA ANTA -L-LAHU LAA ILAAHA ILLA ANTA WAHDAKA LAA SHAREEKA LAK, WA ANNA MUHAMMADAN ABDUKA WA RASUULUK]; leṣẹmerin.

« Iwọ Ọlọhun mo ji saye, mo n fi Iwọ ati awọn Malaika ti wọn ru aga-ọla Rẹ, ati awọn Malaika Rẹ yoku, ati gbogbo awọn ẹda Rẹ se ẹlẹri wi pe: Iwọ ni

Ọlọhun Ọba ti kò si ọba miiran ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọ, ni Iwọ nikan soso, kò si orogun kan fun Ọ, ati pe Anabi Muhammad ẹru Rẹ ni i se ojise Rẹ si ni pẹlu ». Abu-Daa'uud ati awon miiran l'o gbe e jade.

۷- « اللَّهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِي مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحَدِّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، فَלَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ ». [رواه ابن ماجة و غيره].

[ALLAHUMMA MAA ASBAHA BEE MIN NI'IMATIN AW BI'AHADIN MIN KHALQIKA FAMINKA WAHDAKA LAA SHAREEKA LAK, FALAKA -L-HAMDU WA LAKA -SH- SHUKR].

« Iwọ Ọlọhun, ọdọ Rẹ nikan ni gbogbo idera ti o ba emi tabi eyi ti o ba ọkan ninu awon ẹru Rẹ ji ti wa, kò si orogun fun Ọ, ẹyin ni fun Ọ, ọpẹ si ni fun Ọ ». Abu-Daa'uud ati awon miiran l'o gbe e jade.

۸- « اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَدَنِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي، اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي بَصَرِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ، وَالْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ». [ثلاث مرات]. [رواه أبو داود وغيره].

[ALLAHUMMA AAFINEE FEE BADANEE, ALLAHUMMA AAFINEE FEE SAM'EE, ALLAHUMMA AAFINEE FEE BASAREE, LAA ILAAHA ILLA ANT. ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BIKA MINA -L-KUFR, WA FAQR, WA AUUDZU BIKA MIN ADZAABI -L-QABR, LAA ILAAHA ILLA ANT]; Ieemeta.

« Iwọ Qlọhun, fun mi ni alaafia ni ara mi, Iwọ Qlọhun, fun mi ni alaafia ninu igbọrọ mi, Iwọ Qlọhun, fun mi ni alaafia ninu iriran mi, kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọ, Iwọ Qlọhun mo n fi Ọ wa isadi nibi aigbagbo, ati osi, mo si n sadi Rẹ nibi iya saare, kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọ ». Abu-Daa'uud ati ewọn miran l'o gbe e jade.

٩- « حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » [سبع مرات]. [الرحمة ابن السنن وعمره].

[HASBIYA -L-LAHU LAA ILAAHA ILLA HUWA ALAIHI TAWAKKALTU WA HUWA RABBU -L-ARSHI -L-ADZEEM];
leṣmeje.

« Qlọhun to mi, kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si I, Oun ni mo gbẹkẹle, Oun ni Oluwa Alaga ọla titobi ».

١٠- « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي، وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتَرْ عَوْرَاتِي، وَأَمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَمِينِي، وَعَنْ شِمَالِي، وَمِنْ فَوْقِي، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي » [ابن جرير طه وبن صالح].

[ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA -L-AFWA WA -L-AAFIYATA FEE -D-DUNIYA WA -L-AAKHIRAH, ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA -L-AFWA WA -L-AAFIYATA FEE DEENEE WA DUNYAAYA WA AHLEE, WA MAALEE, ALLAHUMMA -S-TURAWRAATEE, WA AAMIN RAW'AATEE, ALLAHUMMA -H'FADZNEE MIN BAINI YADAYYA, WA MIN KHALFEE, WA AN YAMEENEE, WA AN SHIMAALEE, WA MIN FAWQEE, WA AUUDZU BI ADZAMATIKA AN UGTAALA MIN TAHTEE].

« Iwo Ọlọhun, mo n toṣo amojukuro ati alaafia ọḍo Re ni aye ati ọrun, Ọlọhun, mo n toṣo pe ki o se amojukuro ati alaafia fun mi ni ọrun mi ati ni aye mi ati lara ebi mi, ati owo mi, Ọlọhun ba mi gbe awon alebu mi pamọ, fi mi ọkan bale nibi awon ifoya mi "le won jinna si mi", Iwo Ọlọhun, so mi ni iwaju mi, ati leyin mi, ati lapa otun mi, ati lapa alaafia mi, ati ni oke mi, mo si n fi titobi Re wa isadi nibi ki a yo mi pa lati isale mi ». Abu-Daa'uud ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

۱۱- « اللَّهُمَّ عَالَمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،

رَبِّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ

شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَ، وَأَنْ أَتَرَفَّ عَلَى

نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أُجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ ». [رواه أبو داود والترمذي]

[ALLAHUMMA AALIMA -L-GAIBI WA -SH-SHAHAADATI FAATIRA -S-SAMAAWATI WA -L-ARDH, RABBA KULLI SHAIN IN WA MALEEKIHI, ASH'HADU AN LAA ILAAHA ILLA ANT,

AUUDZU BIKI MIN SHARRI NAFSEE, WA MIN SHARRI -SH-SHAITAANI WA SHIRKIHI 'WA SHARAKIHI', WA AN AQATARIFA ALAA NAFSEE SUU'AN, AW AJURRAHU ILAA MUSLIM].

« Iwo Ọlọhun Olumọ ikọkọ ati gbangba, Olupileda awọn sanma ati ile, Oluwa gbogbo nnkan ati Olowo wọn, mo jẹri pe kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọ, mo n fi Ọ wa isadi kuro nibi aburu ara mi, ati nibi aburu esu, ati isẹbọ si Ọlọhun ti i maa n pe ni lọ sidi rẹ “tabi ati ete rẹ”, ati kuro nibi ki n se ori ara mi ni aburu, tabi ki n fa a lọ ba Musulumi ».
Abu-Daa'uud ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

۱۲ - « بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ » [ثَلَاثَ مَرَاتٍ]. [رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ].

[BISMI -L-LAHI -L-LADZEE LAA YADHURRU MA'A -S-MIHI SHAI'UN FEE -L-ARDHI WA LAA FEE -S-SAMAANI WA HUWA -S-SAMEE'U -L-ALEEM]; lẹmẹta.

« Ni orukọ Ọlọhun, Ẹni ti O se pe nnkan kan ti o wa nilẹ tabi ni sanma kò le e ni ni lara lopin igba ti a ba ti darukọ Rẹ, Oun ni Olugbọrọ Oni-mimọ ».
Ahmad ati Abu-Daa'uud ati At-Tirmidziyyu ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

۱۳ - « رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا » [ثَلَاثَ مَرَاتٍ]. [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ].

[RADHEETU BI -L-LAHI RABBAN, WA BI -L-ISLAAMI DEENAN, WA BI'MUHAMMADIN SALLA -L-LAHU ALAIHI WA -S-SALLAMA NABIYYAN]; Iççmęta.

« Mo gba Qlohun ni Oluwa, mo si gba Islam Ięsin, mo si gba Muhammad ni anabi ». Ahmad ati awon miiran l'o gbe e jade.

١٤ - « يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ أَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كَلِّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرَفَةً عَيْنٍ ». [ردہ المائم].

[YAA HAYYU YAA QAYYUUMU BI'RAHMATIKA ASTAGEETHU ASLIH LEE SHA'ANEE KULLAHU WA LAA TAKILNEE ILAA NAFSEE TARFATA AIN].

« Iwo Qba Alaaaye! Iwo Qba Oludaduro! -ti ko bukata ęnikan ti gbogbo nnkan si n bukata Re-, aanu Re ni mo n fi n wa iranlowo, ba mi tun gbogbo oro mi se, ma se da mi dara mi ni odiwon iseju akan ». Al-Haakim l'o gbe e jade.

١٥ - « أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمَلِكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذَا الْيَوْمِ، فَتَحَهُ، وَتَصَرَّهُ، وَتَوْرَهُ، وَتَبَرَكْتَهُ، وَهُدَاهُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ». [ردہ ابو دود].

[ASBAHNA WA ASBAHA -L-MULKU LI -L-LAHI RABBI -L-AALAMEEN, ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA KHAIRA HAADZAA -L-YAWM, FAT'HAHU, WA NASRAHU, WA NUURAHU, WA BARAKATAHU, WA HUDA AHU, WA AUUDZU BIKA MIN SHARRI MAA FEEHI WA SHARRI MAA BA'ADAH].

« A ji saye, akoso naa si ji fun Ọlọhun Ọba gbogbo ẹda, Iwo Ọlọhun mo n toro oore oni loḍo Re: isegun re, ati aranse re, ati imole re, ati oore re, ati imona re, mo si n sadi Re nibi aburu ohun ti n be ninu re ati aburu ohun ti n be leyin re ». Abu-Daa'uud l'o gbe e jade

١٦ - « أَصْبَحْنَا عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَعَلَى كَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ،
وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ، حَنِيفًا
مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ». [رواه احمد وابن السني]

[ASBAHNAA ALAA FITRATI -L-ISLAM WA ALAA KALIMATI -
L- IKHLAAS, WA ALAA DEENI NABIYYINAA MUHAMMADIN
SALLA -L-LAHU ALAIHI WA -S-SALLAM, WA ALAA MILLATI
ABEENAA IBRAAHIMA HANEEFAN MUSLIMAN WA MAA
KAANA MINA -L-MUSHRIKEEN].

« A ji si ori esin Islam ati si ori gbolohun afomo -sise Ọlọhun Ọba laaso ninu ijosin-, ati si ori esin Anabi wa Muhammad ike ati ola Ọlọhun k'o maa ba a, ati lori ilana baba wa Anabi Ibrahim, eni ti o fi ona ti ko to silẹ lo si eyi ti o to, ti o si je olugbafa fun Ọlọhun [Musulumi], beẹ ni ko je okan ninu awon osebo (عابد)». Ahmad ati Ibn Sunni l'o gbe e jade

١٧ - « سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ » [مائة مرة] . [رواه مسلم]

[SUBHAANA -L-LAHI WA BI HAMDIHI]; ni igba ogorun.
« Mimọ ni fun Ọlọhun, ope si ni fun Un ».

١٨ - « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
 الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » [عشر مرات]. رواه
 النسائي في عمل اليوم والليلة، وغيره. أو [مرة واحدة عند
 الكسل]. [رواه أبو داود وابن ماجه].

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH,
 LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMD, WA HUWA ALAA KULLI
 SHAIN IN QADEER]; leçmewa tabi leçkan nigba ti oroju
 ba n seyan.

« Kò si oḅa kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si
 Oloḅhun nikan soso, kò si orogun kan fun Un, Oun
 l'O ni ọla ati oḅe, Oun si ni Alagbara lori gbogbo
 nnkan ».

١٩ - « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
 الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » [مائة مرة إذا أصبح]. [سنن
 عليه].

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH,
 LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMD, WA HUWA ALAA KULLI
 SHAIN IN QADEER]; ni igba oḅoḅurun nigba ti eniyan ba ji
 saye.

« Kò si oḅa kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si
 Oloḅhun nikan soso, kò si orogun kan fun Un, Oun
 l'O ni ijọba ati oḅe, Oun si ni Alagbara lori gbogbo
 nnkan » . Bukhan ati Muslim l'o gbe e jade

٢٠ - « سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ: عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرِضَا نَفْسِهِ، وَرِزْقَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ » [ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا أَصْبَحَ]. [رواه مسلم].

[SUBHAANA -L-LAHI WA BI HAMDHI: ADADA KHALQIHI, WA RIDHAA NAFSIHI, WA ZINNATA ARSHIHI WA MIDAADA KALIMAATIHI] leçemeta; nigba ti eniyan ba ji saye.

« Mimọ ni fun Olohun, ope ni fun Un: Ni onka awon e da Re, ati ni odiwon iye ti O yonu si, ati osunwon aga o la Re, ati iye tada awon orọ Re ». Muslim l'o gbe e jade

٢١ - « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا » [إِذَا أَصْبَحَ]. [رواه ابن ماجه و غيره].

[ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA ILMAN NAAFIAN, WA RIZQAN TAYYIBAN, WA AMALAN MUTAQABBALAN]; nigba ti o ba ji saye.

« Iwo Olohun, mo n toro imo alanfaani lodọ Re, ati oro ti o dara, ati ise ti yoo je atewogba ». Ibn Maajah ati awon miran l'o gbe e jade.

٢٢ - « أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ » [مِائَةَ مَرَّةٍ فِي الْيَوْمِ]. [ابن عبد].

[ASTAGFIRU -L-LAHA WA ATUUBU ILAIHI]; nigba ogorun lojumọ.

« Mo n toro aforijin lodọ Olohun, mo si n ronupiwada lo si odọ Re ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

۲۳- « أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّمَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ » [ثلاث
مرات إذا أمسى]. [روده احد و عود].

[AUUDZU BI KALIMAATI -L-LAHI -T-TAMMAATI MIN SHARRI
MAA KHALAQ]; lẹ̀mẹ̀ta nigba ti eniyan ba lẹ̀lẹ.

« Mo n fi awon gbolohun Olohun ti o pe wa isadi
nibi aburu ohun ti O da ». Ahmad ati awon miiran l'o gbe e jade.

۲۴- « السَّلَامُ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَيَّ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ » [عشر مرات].
[أرحه الطران].

[ALLAHUMMA SALLI WA SALLIM ALAA NABIYYINAA
MUHAMMAD]; lẹ̀mẹ̀wa.

« Iwo Olohun, se ike ati igbe fun Anabi wa
Muhammad ». Al-Tabarsaniyyu l'o gbe e jade.

AWON ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA FE SUN

1- « Yoo pa owo re mejeeji po, yoo si tuto si won,
yoo wa ka awon kewu ti n bo wonyi sinu won
lẹ̀mẹ̀ta:-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿۱﴾ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿۲﴾
لَمْ يَكُنْ لَمْ يُولَدْ ﴿۳﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ ﴿۴﴾ .

BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL HUWA -L-
LAHU AHAD* ALLAHU -S-SAMAD* LAM YALID WA LAM
YUULAD* WA LAM YAKUN LAHU KUFWAN AHAD].

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿٢﴾ مِنْ شَرِّ مَا
خَلَقَ ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِي إِذَا وَقَبَ ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي
الْعُقَدِ ﴿٥﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٦﴾ .

BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL AUUDZU BI
RABBI -L-FALAQ* MIN SHARRI MAA KHALAQ* WA MIN
SHARRI GAASIQIN IDZAA WAQAB* WA MIN SHARRI -N-
NAFAATHAATI FEE -L-UQAD* WA MIN SHARRI
HAASIDIN IDZAA HASAD].

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿٢﴾ مَلِكٍ ﴿٣﴾
النَّاسِ ﴿٤﴾ إِلَهٍ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٦﴾
الَّذِي يُوسَسُ فِي سُجُورِ النَّاسِ ﴿٧﴾ .

BISMI -L-LAHI -R-RAHMAANI -R-RAHEEM [QUL AUUDZU BI
RABBI -N-NAAS* MALIKI -N-NAAS* ILAAHI -N-NAAS*
MIN SHARRI -L-WASWAASI -L-KHANNAAS* AL-LADZEE
YUWASWISU FEE SUDUURI -N-NAAS* MINA -L-JINNATI
WA -N-NAAS].

Leɣyin eleyii yoo fi qwo mejeeji naa pa eyi ti o ba ro
o lqrun ninu ara re, bere lati ori ati oju re. [Yoo se
bere leqmeta] ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

٢ - ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَلِيُّ الْغَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَمْ يَلَمْ مَا
فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا

بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ
 وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ
 الْعَظِيمُ ﴿

[ALLAHU LAA ILAHA ILLA HUWA -L-HAYYU -L-
 QAYYUMU LAA TA'AKHUDZUHU SINATUN WA LAA
 NAWMUN LAHU MAA FEE -S-SAMAAWAATI WA MAA
 FEE -L-ARDHI MAN DZA -L-LADZEE YASHFAU INDAHU
 ILLA BI IDZNIHI YA'ALAMU MAA BAINA AIDIHIM WA
 MAA KHALFAHUM WA LAA YUHEETUUNA BI SHAIN IN
 MIN ILMIHI ILLA BI MAA SHAA'A WASIA KURSIYYUHU -
 S-SAMAAWAATI WA -L-ARDHA WA LAA YA'UUDUHU
 HIFDZUHUMAA WA HUWA -L-ALIYYU -L-ADZEEM].
 [Qur'aan: 2:255]

۳ - ﴿ ءَاَمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ ءَاَمَنَ
 بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهِ وَرُسُوْلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُوْلِهِ وَقَالُوْا
 سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا عُرْفَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٥٥﴾ لَا يَكْفِيْكَ اَللّٰهُ
 نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
 اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْلَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِسْرًا كَمَا حَمَلْتُمْ عَلَی
 الْاٰدِيْمِ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاَعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ

لَا وَارِعْتُمْ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

[سورة البقرة : ٢٨٥ - ٢٨٦] .

[AAMANA -R-RASUULU BI MAA UNZILA ILAIHI MIN RABBIHI WA -L-MU'UMINUUNA KULLUN AAMANA BI -L-LAHI WA MALAAIKATIHI WA KUTUBIHI WA RUSULIHI LAA NUFARRIDU BAINA AHADIN MIN RUSULIHI WA QAALUU SAMI'INAA WA ATA'ANAA GUFRAANAKA RABBANAA WA ILAIKA -L-MASEER* LAA YUKALLIFU -L-LAHU NAFSAN ILLA WUS'A'HAA LAHA MAA KASABAT WA ALAIHAA MAA -K-TASABAT RABBANAA LAA TU'AA'KHIDZ'NAA IN NASEENAA AW AKH'TA'ANAA RABBANAA WA LAA TAHMIL ALAINAA ISRAN KAMAA HAMALTAHU ALAA -L-LADZEENA MIN QABLINAA RABBANAA WA LAA TU'HAMMIL'NAA MAA LAA TAAQATA LANAA BIHI WA'AFU ANNA WA -G-FIR LANAA WA -R-HAM'NAA ANTA MAULAANAA FANSURNAA ALAA -L-KAUMI -L-KAAFIREEN]. [Qur'aan: 2:285,286].

٤ - " يَا سَمِيكَ رَبِّي وَصَعْتُ جَنِّي، وَبِكَ أَرْفَعُهُ، فَإِنْ أَمَسَكَتْ نَفْسِي فَارْحَمَهَا، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ " . [معجمه].

[BISMIKA RABBE WADHA'ATU JANBEE, WA BIKA ARFAU'U, FA'IN AMSAKTA NAFSEE FARHAMHAA, WA IN

ARSALTAHAA FAHFADZHAA BI MAA TAHFADZ BIHI
IBAADAKA -S-SAALIHEEN].

« Mo fi ẹgbẹ mi lele ni oruko Iwo Oluwa mi, Iwo
Naa l'O si mu mi le gbe e dide, ti O ba gba ẹmi mi
[l'ọju oorun] ke ẹ, ti O ba si tu u silẹ sọ ọ, pelu ohun
ti O maa N fi i sọ awọn ẹru Rẹ oluse-daadaa ». Bukhari
ati Muslim l'o gbe e jade.

« اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَوْفَاقِي، لَكَ مَحَاتِبِي
وَمَحَابَتِي، إِنَّ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَهَا فَاغْفِرْ لَهَا. اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ ». [رواه أحمد وسليمان].

[ALLAHUMMA ANTA KHALAQTA NAFSEE WA ANTA
TAWAFFAAHAA, LAKA MAMAATUHAA WA MAHYAAHAA,
IN AH'YAITAHAA FAHFADZHAA, WA IN AMATTAHAA
FAGFIR LAHAA. ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA -L-
AAFIYAH].

« Iwo Olohun, dajudaju Iwo l'O da ẹmi mi, Iwo Naa
l'O si mu un lo, Iwo l'O ni oku ati aaye re, ti O ba
mu un maa be laaye so ọ, ti O ba si pa a se aforijin
fun un. Olohun mo n toro alaafia lodọ Re ». Ahmad ati
Muslim l'o gbe e jade.

« اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ » [ثَلَاثَ مَرَاتٍ].
[رواه أبو داود وشمس الدين].

[ALLAHUMMA QINEE ADZAABAKA YAWMA TAB'ATHU
IBAADAK]; lepeeta.

« Qlòhun sọ mi nibi iya Rẹ ni oṣọ ti O gbe awọn ẹru Rẹ dide ». Abu-Daa'ud ati Al-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

۷- « بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيَا » . [سفر عليه].

[BISMILAH -L-LAHUMMA AMUUTU WA AHAYAA].

« Ni orukọ lwo Qlòhun ni n o ku ni n o si maa sẹmi ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

۸- « سُبْحَانَ اللَّهِ [نَلَأْنَا وَنَلَأَيْنِ] وَالْحَمْدُ لِلَّهِ [نَلَأْنَا وَنَلَأَيْنِ] وَاللَّهُ أَكْبَرُ [أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ] » . [سفر عليه].

[SUBHAANA -L-LAAH "mẹtalelọgbọn" AL-HAMDU LI-L-LAAH "mẹtalelọgbọn" ALLAHU AKBAR "mẹtalelọgbọn"]. Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

۹- « اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، وَمُنزِلَ التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ » . [رداه سلمه].

[ALLAHUMMA RABBA -S-SAMAAWAATI -S-SABI WA RABBA -L-ARSHI -L-ADZEEM, RABBANAA WA RABBA KULLI SHAIN IN, FAALIQA -L-HABBI WA -N-NAWAA, WA MUNZILA -T-TAWRAATI WA -L-INJEELI WA -L-FURQAAN, AUUDZU BIKA

MIN SHARRI KULLI SHAIN IN ANTA AAKHIDZUN
 BI'NAASIYATIHI. ALLAHUMMA ANTA -L-AWWALU FALAISA
 QABLAKA SHAIUN, WA ANTA -L-AAKHIRU FALAISA
 BA'ADAKA SHAIUN, WA ANTA -D-DZAAHIRU FALAISA
 FAWQAKA SHAIUN, WA ANTA -L-BAATINU FALAISA
 DUUNAKA SHAIUN. IQDHI ANNEE -D-DAINA WA A'G'NINEE
 MINA -L-FAQR].

« Iwọ Ọlọhun, Oluwa awọn sanma mejeeje, Ọba
 Alaga ọla titobi, Oluwa wa Oluwa gbogbo nnkan,
 Olumu eso ati koro hu jade, Oluso Tawraata ati
 Injeela ati Al-Qur-aan kale, mo n sadi Re nibi aburu
 gbogbo nnkan ti o se wi pe O gba asoso re mu,
 Ọlọhun, Iwọ ni Ẹni-Akọkọ kò si nnkan kan ti o
 siwaju Re, Iwọ ni Ẹni-Igbeyin kò si nnkan kan ti yoo
 sẹku leyin Re, Iwọ ni Ẹni ti O han kò si nnkan kan ti
 o han ju Ọ lọ, Iwọ ni Ẹni ti o pamọ kò si nnkan kan
 ti o pamọ ju Ọ lọ, ba mi san gbese mi ki O si rọ mi
 lọrọ kuro ninu osi ». Muslim l'o gbe e jade.

١٠ - « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكَفَانَا، وَأَوَّانَا، فَكَمَّ

مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِيٌّ ». [ردہ مسلم]

[AL-HAMDU LI -L-LAHI -L-LADZEE AT'AMANAA WA
 SAQAANAA, WA KAFAANAA, WA AAWAANAA, FAKAM
 MIMMAN LAA KAAFIYA LAHU WA LAA MU'UWEE].

« Ọpẹ ni fun Ọlọhun ti O fun wa ni jije ati miru, ti
 O si to wa, ti O si fun wa ni ibugbe, meloomeloo ni

eni ti kò ni eni ti yoo to o, ti kò si ni eni ti yoo fun un ni ibugbe »). Muslim l'o gbe e jade.

۱۱ - « اللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ، وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا، أَوْ أُحْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ ». [رواه أبو داود].

[ALLAHUMMA AALIMA -L-GAIBI WA -SH-SHAHAADATI FAATIRA -S-SAMAAWATI WA -L-ARDH, RABBA KULLI SHAIN IN WA MALEEKIHI, ASH'HADU AN LAA ILAAHA ILLA ANT, AUUDZU BIKA MIN SHARRI NAFSEE, WA MIN SHARRI -SH-SHAITAANI WA SHIRKIHI, WA AN AQATARIFA ALAA NAFSEE SUU'AN, AW AJURRAHU ILAA MUSLIM].

« Iwo Olohun, Olumo ikokoko ati gbangba, Olupileda awon sanma ati ile, Oluwa gbogbo nnkan ati Olowo won, mo jeri pe ko si o ba kan ti o to lati fi ododo josin fun yatọ si O, mo n sadi Re kuro nibi aburu ara mi, ati nibi aburu esu ati iseko si Olohun ti i maa n pe ni lo sidi re -abi ati ete re-, ati kuro nibi ki n se ori ara mi ni aburu, tabi ki n fa a lo ba Musulumi ». Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

12- Yoo ke **Suuratu Al-Sajdah**, ati **Suuratu Al-Mulk**.

۱۳ - « اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَأَلْحَاثُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً

إِلَيْكَ، لَا نُلْحَا وَلَا مَتَحَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي
أَنْزَلْتَ وَبَيَّنَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ ». [متفق عليه].

[ALLAHUMMA ASLAMTU NAFSEE ILAIK, WA FAWWADHTU
AMREE ILAIK, WA WAJJAHTU WAJHEE ILAIK, WA
ALJA'ATU DZAHREE ILAIK, RAGBATAN WA RAHBATAN
ILAIK, LAA MALJA'A WA LAA MANJAA MINKA ILLA ILAIK,
AAMANTU BI KITAABIKA -L-LADZEE ANZALTA WA BI
NABIYYIKA -L-LADZEE ARSALT].

« Iwo Qlòhun, mo fi çmi mi le Q lówò, mo si fi oqò
mi ti si oqò Rẹ, mo si d'uju mi kọ oqò Rẹ, mo si fi
eyin mi ti si oqò Rẹ, ni ti ibẹru Rẹ, ati ni ti sise
ojukokoro si oqò Rẹ, kò si ibusasi kan tabi
ibuforipamọsi kan kuro lódò Rẹ yatọ si oqò Rẹ, mo
gba tira Rẹ ti O sọ kalẹ gbọ, mo si gba Anabi Rẹ ti O
ran nise gbọ ». Bukhri ati Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA YIRA-PADA LORU

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ». [رواه مسلم].

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU -L-WAAHIDU -L-QAHHAAR,
RABBU -S-SAMAAWAATI WA -L-ARDHI WA MAA
BAINAHUMAA -L-AZEEZU -L-GAFFAAR].

« Kò si oba kan ti o to lati fi ododo josin fun yatọ si
Qlòhun Qba Qkan-soso Olubori, Oluwa gbogbo

awon sanma ati ile ati ohun ti n be laarin mejeeji Alagbara "t'o bori gbogbo nnkan" Alaforijin ». Al-Hakim l'o gbe e jade.

ADUA IBERU OJU-OORUN, ATI TI ENI TI BAN BE NINU ADANWO DIDAGBE

« أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ، وَشَرِّ عِبَادِهِ، وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ » . [رود ابرود].

[AUUDZU BI KALIMAATI -L-LAHI -T-TAMMAATI MIN GADHABIHI WA IQAABIHI, WA SHARRI IBAADIHI, WA MIN HAMAZAATI -SH-SHAYAATEENI WA AN YAHDHURUUN].

« Mo n fi awon gbolohun Ololahun ti o pe wa isadi nibi ibinu Re ati iya Re, ati aburu awon eru Re, ati nibi awon iroyiroyi awon esu, ati kuro nibi ki won o wa si odomi ». Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

OHUN TI ENI TI O BALALARI ABURU NI OJU-OORUN YOO SE NIGBA TI O BAJI

1- Oluwaare yoo tu ategun ti ko ni ito ninu si apa alaafia re lemeta. Muslim l'o gbe e jade.

2- Yoo fi Ololahun wa isadi kuro lodu esu ati aburu ohun ti o ri ni oju-oorun lemeta. Muslim l'o gbe e jade.

3- Ki o ma se so ohun ti o ri ni oju-oorun re yii fun enikan kan rara. Muslim l'o gbe e jade.

4- Ki o yi egbe pada si apa miiran yatso si eyi ti o wa lori re [nigba ti o lala naa]. Muslim l'o gbe e jade.

5- Ki o dide kirun -Naafila- ti o ba wu u lati se beę.
Muslim l'o gbe e jade

ADUA IDURO [AL-QUNUUT] TI IRUN WITR

١- « اللَّهُمَّ اغْدِيْنيْ فِمْنْ هَدِيَّتْ، وَغْفِرْنيْ فِمْنْ عَافِيَّتْ،
وَتَوَلَّنيْ فِمْنْ تَوَلِّيَّتْ، وَبَارِكْ لِيْ فِيمَا أُعْطِيَّتْ، وَفِيْ شَرِّ مَا
قَضَيْتْ، فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا بُقْضِيْ عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ
وَأَلَيْتْ، وَلَا يَعْزُ مَنْ عَادَيْتْ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتْ ». [السر...

اصحاب السنن الأربعة والبيهقي وغيرهم].

[ALLAHUMMA -H-DINEE FEEMAN HADAIT, WA AAFINEE
FEEMAN AFAIT, WA TAWALLANEE FEEMAN TAWALLAIT,
WA BAARIK LEE FIMAA A'ATAIT, WA QINEE SHARRA MAA
QADAIT, FA'INNAKA TAQDEE WA LAA YUQDAA ALAIK,
INNAHU LAA YADZILLU MAN WAALAIT, WA LAA YAIZZU
MAN AADAIT, TABAARAKTA RABBANAA WA TA'AALAIT].

« Qlqhun fi qna mo mi pelu awon ti O fi qna mo, fun
mi ni alaaafia pelu awon ti O fun lalaafia, ba mi
mojuto qro mi pelu awon ti O se amojuto qro won,
ba mi fi oore si ohun ti O fun mi, so mi ninu aburu
ohun ti O se ni idajo, tori pe dajudaju lwo l'O maa n
se idajo [fun awon eru Re] enikan ki i se idajo fun O,
dajudaju eni ti O fe ko ni i te, ati pe agbega ko si fun
eni ti O ko fe, ibukun ni fun O, giga si ni fun O ».

Awon oni-tira Sunna merqerin ati Al-Baihaqqiyyu l'o gbe e jade.

٢- « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ ». [رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة].

[ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BIRIDHAAKA MIN SAKHATIK, WA BIMU'AAFATIKA MIN UQUUBATIK, WA AUUDZU BIKA MINK, LAA UH'SEE THANAA'AN ALAIK, ANTA KAMAA ATH'NAITA ALAA NAFSIK].

« Iwo Olohun, mo n fi iyonu Re wa isadi nibi ibinu Re, mo si n fi amojukuro Re wa isadi kuro nibi iya Re, mo si n fi O wa isadi loḍo ara Re, kò si bi mo ti se le yin O ti o le da geḡe bi O ti se yin ara Re ».

Ahmad ati awon oni-tira Sunna mereḡin l'o gbe e jade.

٣- « اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْبُدُ، وَلكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْتَعِينُ وَنَخْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَخْضَعُ لَكَ، وَنَخْلَعُ مِنْ بَكْرُوكَ ». [المرحوم القمي].

[ALLAHUMMA IYYAAKA NA'ABUD, WA LAKA NUSALLI WA NASJUD, WA ILAIKA NAS'AA WA NAKHFIDH, NARJUU RAHMATAK, WA NAKH'SHA ADZAABAK, INNA ADZAABAKA BI L-KAAFIREENA MULHAQ. ALLAHUMMA INNAA NASTA'I'EENUK, WA NASTAGFIRUK, WA NUTH'NEE ALAIKA

-L-KHAIR, WA LA NAKFURUK, WA NU'UMINU BIK, WA NAKHDHA'U LAK, WA NAKHLA'U MAN YAKFURUK].

« Olohun, Iwo nikan ni a n josin fun, Iwo ni a n kirun fun, Iwo Naa ni a n si fi ori kanle fun, odo Re ni a da oju ko ti a si n yara lo, a n rankan ike Re, a si n paya iya Re, dajudaju ohun ti yoo ba awon alaigbagbo ni iya Re i se, Iwo Olohun, a n wa atileyin Re ati aforijin Re, a n si fi eyin rere fun O, a ko ni i se aimoore si O, a si gba O gbogbo lododo, a si n teriba fun O, a si n pa gbogbo eni ti o se aigbagbo si O ti ».

Al-Baihaqqiyyu l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE LEYIN TI O BA SALAMA NI IRUN WITR

« Eniyan o so pe:

« سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ ».

[SUBHAANA -L-MALIKI -L-QUDDUUS] leqemeta, « Mimọ ni fun Olohun Oba Oni-mimọ »; yoo si gbe ohun re soke nigba ti yoo ba wi eleqeta pelu fifa a gun, yoo si fi kun un pe:

« رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ».

[RABBI -L-MALAAIKATI WA -R-RUUH].

« Oluwa awon Malaika ati Jibreel ».

An-Nasaa' i l'o gbe e jade.

ADUA AIBALE-QKAN ATI IBANUJE

١- « اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدَلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ اسْتَأْذَنْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَثَوْرَ صَدْرِي، وَحِلَاءَ حُرْنَيْ، وَذَعَابَ هَمِّي. » [رواه احمد].

[ALLAHUMMA INNEE ABDUK, IBNU ABDIK, IBNU AMATIK, NAASIYATEE BI YADIK, MAADHIN FIYYA HUKMUK, ADLUN FIYYA QADHAA'UK, AS'ALUKA BI KULLI S'MIN HUWA LAKA SAMMAITA BIHI NAFSAK, AW ANZALTAHU FEE KITAABIK, AW ALLAMTAHU AHADAN MIN KHALOIK, AWI S'TA'ATHARTA BIHI FEE ILMI -L-GAIBI INDAK, AN TAJ'ALA -L-QUR'AANA -L-ADZEEMA RABEE'A QALBEE, WA NUURA SADREE, WA JALAA'A HUZNEE, WA DZAHAABA HAMMEE].

« Iwo Ọlọhun, dajudaju ẹru Rẹ ni mi, ọmọ ẹru Rẹ ọkunrin, ọmọ ẹru Rẹ lobinrin, asoso mi n be ni ọwo Rẹ, idajo Rẹ n se le mi lori, akoolẹ Rẹ si se dogba lori mi, mo n be Ọ pelu gbogbo oruko ti o je ti Ẹ, eyi ti O so ara Rẹ, tabi eyi ti O so kalẹ sinu tira Rẹ, tabi eyi ti O fi mo ẹnikan ninu awon ẹda Rẹ, tabi eyi ti o se wi pe Iwo nikan l'O mo on ninu imo ikokọ ti o wa

lọdọ Rẹ, pe ki O se Al-Qur'aan alapọnle ni itutu
 ọkan mi, ati imọlẹ igba-aya mi, ati isipaya ibanujẹ
 mi, ati olumu aibalẹ-ọkan mi lọ ». Ahmad l'ọ gbe e jade.

٢- « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ،
 وَالْبَخْلِ وَالْحَيْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ». [رواه البخاري].

[ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BIKA MINA -L-HAMMI WA -L-
 HAZAN, WA -L-AJZI WA -L-KASAL, WA -L-BAKH'LI WA -L-
 JUB'N, WA DHALA'I -D-DAINI WA GALABATI -R-RIJAAL].

« Iwo Ọlọhun, mo sadi Rẹ nibi aibalẹ-ọkan ati
 ibanujẹ, ati ikaarẹ, ati oroju, ati ahun, ati ọlẹ, ati ẹru
 gbese, ati kuro nibi ki awọn eniyan o bori mi ».
 Bukhari l'ọ gbe e jade.

ADUA IDAAMU

١- « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ
 الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ
 الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ». [متفق عليه].

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU -L-ADZEEMU -L-HALEEM, LAA
 ILAAHA ILLA -L-LAHU RABBU -L-ARSHI -L-ADZEEM, LAA
 ILAAHA ILLA -L-LAHU RABBU -S-SAMAAWAATI WA RABBU
 ARDHI WA RABBU -L-ARSHI -L-KAREEM].

« Kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si
 Ọlọhun Ọba-Titobi Alafarada, kò si ọba kan ti o tọ
 lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun Alaga ọla ti O

tobi, kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun Ọba awọn sanma ati ilẹ Ọba Alaga ọla Alapọnle ». Bukhari ati Muslim l'ọ gbe e jade.

۲ - « اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ». [رواه أحمد وأبو داود].

[ALLAHUMMA RAHMATAKA ARJUU FALAA TAKILNEE ILAA NAFSEE TARFATA AIN, WA ASLIH LEE SHA'ANEE KULLAH, LAA ILAAHA ILLA ANT].

« Iwọ Ọlọhun, ikẹ Rẹ ni mo n rankan, ma se da mi dara mi ni odiwọn iseju akan, ba mi tun gbogbo ọrọ mi se, kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọ ». Ahmad ati Abu-Daa'uud l'ọ gbe e jade.

۳ - « لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ». [رواه ترمذی].

[LAA ILAAHA ILLA ANTA SUBHAANAKA INNEE KUNTU MINA -DZA-DZAAIMEEN].

« Kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọ, mimọ ni fun Ọ, dajudaju emi je ọkan ninu awọn alabosi ». Al-Tirmidziyyu l'ọ gbe e jade.

۴ - « اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ». [رواه أبو داود].

[ALLAHU ALLAHU RABBE LAA USHRIKU BIHI SHAI'AN].

« Ọlọhun ni Oluwa mi, n kò ni i fi nnkan kan se orogun fun Un ». Abu-Daa'uud l'ọ gbe e jade.

**ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA
FE PADE OTA RE TABI ENI TI IJOBA N BE**

LOWO RE

١ - « اللَّهُمَّ إِنَّا نَحْتَقِّكَ فِي نُحُورِهِمْ، وَتَعُوذُ بِكَ مِنْ
شُرُورِهِمْ ». [رواه أبو داود]

[ALLAHUMMA INNAA NAJ'ALUKA FEE NUHUURIHIM WA
NA'UUDZU BIKA MIN SHURUURIHIM].

« Iwọ Qlọhun, a n fi Ọ si ookan aya wọn -a n bẹ Ọ
pe ki O ba ni di igba-aya wọn, ma jẹ ki wọn o le de
oḍo wa rara-, a si n sadi Rẹ nibi awọn aburu wọn ».
Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

٢ - « اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضِدِي، وَأَنْتَ نَصِيرِي، بِكَ أَجُولُ، وَبِكَ
أَصُولُ، وَبِكَ أَقَاتِلُ ». [رواه أبو داود والترمذي].

[ALLAHUMMA ANTA ADUDEE, WA ANTA NASEEREE, BIKA
AJUUL, WA BIKA ASUUL, WA BIKA UQAATIL].

« Iwọ Qlọhun ni Alafeyinti mi, Iwọ ni Alaranse mi,
Iwọ ni n o fi maa ti ete ọta danu, Iwọ ni n o si fi bori
wọn, Iwọ ni n o fi maa ba wọn ja ». Abu-Daa'uud ni Al-
Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

٣ - « حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ». [رواه البخاري].

[ASBUNAA -L-LAHU WA NI'IMA -L-WAKEEL].

« Qlọhun to wa, O si dara pupo ni Alafeyinti ». Bukhari
l'o gbe e jade.

**ADUA ENI TI N BERU ABOSI ENI TI -
AGBARA-IJOBA N BE LOWO RE**

١- « اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، كُنْ لِي حَارًّا مِنْ [فَلَان] بْنِ [فَلَان] وَأَحْزَابِهِ مِنْ عِلَاقَتِكَ، أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ يَطْعَى، عِزُّ حَارِّكَ، وَحَلَّ شَاؤُكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ». [رواه البخاري في الأدب المفرد].

[ALLAHUMMA RABBA -S-SAMAAWAATI -S-SAB'I, WA RABBA -L-ARSHI -L-ADZEEM, KUN LEE JAARAN MIN "{lagbaja} BNI {lakasegbe}]", WA AH'ZAABIHI MIN KHALAA'IDIK, AN YAFRUTA ALAYYA AHADUN MINHUM AW YATGAA, AZZA JAARUK, WA JALLA THANAA'UK, WA LA ILAAHA ILLA ANT].

« Iwo Olohun, Oba awon sanma mejeeje, Oba Alaga olo titobi, je Oluranlowo fun mi lori lagbaja omolagbaja, ati awon ijo re ninu awon eru Re, ma je ki enikan won o yara se mi laburu tabi ki o se agbere "le mi lori", eni ti o ba toro atileyin Re yoo leke -yoo di alagbara-, eyin Re si gbun-un-gbun, ko si o ba kan ti o to lati fi ododo josin fun yatọ si O ».

٢- « اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعًا، اللَّهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ، أَعُوذُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الْمُعْسِكِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَنْ يَقَعَنَّ عَلَيَّ الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ [فَلَان]،

وَحُسُودِهِ وَاتِّبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ، مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ، اللَّهُمَّ كُنْ لِي
 حَارًا مِنْ شَرِّهِمْ، جَلَّ تَنَازُكَ وَعَزَّ جَارُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَلَا
 إِلَهَ غَيْرُكَ « (ثَلَاثَ مَرَاتٍ) - [رواه البخاري في الأدب المفرد].

[ALLAHU AKBAR, ALLAHU A'AZZU MIN KHALQIHI
 JAMEE'AN, ALLAHU A'AZZU MIMMAA AKHAAFU WA
 AHDZAR, AUUDZU BI -L-LAHI -L-LADZEE LAA ILAAHA ILLA
 HUWA, AL-MUMSIKI -S-SAMAAWAATI -S-SAB'I AN
 YAQA'ANA ALAA -L-ARDHI ILLA BI-IDZNIHI, MIN SHARRI
 ABDIKA [lagbaja], WA JUNUUDIHI WA ATBAA'IHI WA
 ASH'YAA'IHI, MINA -L-JINNI WA -L-INS, ALLAHUMMA KUN
 LEE JAARAN MIN SHARRIHIM, JALLA THANAA'UKA WA
 AZZA JAARUK, WA TABAARAKA -S'MUK, WA LAA ILAAHA
 GAIRUK]; leqemeta.

« Qlqhun l'O tobi ju, Qlqhun ga ju gbogbo awon e da
 Re lo, Qlqhun ga ju ohun ti mo n beru ti mo si n sora
 fun lo, mo sadi Qlqhun ti ko si o ba miiran ti o to lati
 fi ododo josin fun yatso si I, Oba ti o di sanma
 mejeeje mu, ti o se pe nnkan kan ko l'o mu un ma ja
 le ile lori yatso si ase Re, "mo sadi Re" nibi aburu eru
 Re [lagbaja], ati awon omogun re, ati awon omogun
 leyin re, ati awon elegebe re, ninu awon alujannu ati
 awon eniyan, Iwo Qlqhun je Oluranlowo fun mi
 kuro ninu aburu won, eni ba toso atileyin Re yoo
 leke - yoo di alagbara-, eyin Re si gbun-un-gbun.

ibukun ni fun orukọ Rẹ, ati pe kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọ ».

ADUA LORI OTA ENI

« اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيعَ الْحِسَابِ، اهْزِمِ الْأَحْزَابَ،
اللَّهُمَّ اهْزِمْنَهُمْ وَزَلِّزْلَهُمْ ». [رواه مسلم].

[ALLAHUMMA MUNZILA -L-KITAAB, SAREE'A -L-HISAAB, IHZIMI -L-AHZAAB, ALLAHUMMA -H-ZIMHUM WA ZALZILHUM].

« Iwọ Ọlọhun, Olusọ-awọn-tira-kalẹ, Ayara-se-isiro, [ba mi] sẹgun awọn ijọ ọta wọnyi, Ọlọhun [ba mi] sẹgun wọn, ki O si mi wọn logbologbo ». Muslim l'ọ gbe e jade.

OHUN TI ENI TI BA N PAYA AWON KAN YOO WI

« اللَّهُمَّ اكْفِنِهِمْ بِمَا شِئْتَ ». [رواه مسلم].

[ALLAHUMMA 'K'FINEEHIM BIMAA SHI'TA].

« Iwọ Ọlọhun, fi ohun ti O ba fẹ gba mi kuro lẹwọ wọni ». Muslim l'ọ gbe e jade.

ADUA ENI TI IYEMEJI BA N SE IGBAGBO RE

1- « Ki oluwaare o sadi Ọlọhun Ọba ». Bukhari ati Muslim l'ọ gbe e jade.

2- « Ki o pa iyemeji rẹ ti lori ohun ti n se iyemeji le lori ». Bukhari ati Muslim l'ọ gbe e jade.

3- « Ki oluwaarę o maa sọ pe:

«أَمَتْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ.»

[AAMANTU BI-L-LAHI WA RUSULIHI].

« Mo gba Ọlọhun ati awọn ojise Rę gbọ lododo ».
[Muslim l'o gbe e jade].

4- « Ki o maa ka orọ Ọlọhun Ọba t'O ga ti o lọ bayii pe:

«هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.»
[سورة الحديد: (۲۳)، رواه أبو داود].

[HUWA -L-AWWALU WA -L-AAKHIRU WA -D-ZAAHIRU WA -L-BAATINU WA HUWA BI KULLI SHAIN IN ALEEM].

« Oun "Ọlọhun" ni Ẹni-akọkọ, ati Ẹni-igbeyin, ati Oluhan, ati Olupamọ, ati pe Oun Olumọ nipa gbogbo nnkan ».
[Al-Qur'aan 57:3]. Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

ADUA ATIRI GBESE SAN

۱- «اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ

عَمَّنْ سِوَاكَ.» [رواه ترمذی].

[ALLAHUMMA AKFINEE BI HALAALIKA AN HARAAMIK, WA AGNINEE BI FADHLIKA ANMAN SIWAAK].

« Iwọ Ọlọhun, to mi pẹlu ohun ti O se ni ẹtọ kuro nidi ohun ti O se leewọ, si rọ mi lọrọ pẹlu ọla Rę kuro ni ọdọ ẹlomiran yatọ si O ».
Al-Tirmidziyyu l'o gbe e jade

٢- « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ،
وَالْبَخْلِ وَالْحُبْنِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ ». [رواه مسلم].

[ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BIKA MINA -L-HAMMI WA -L-
HAZAN, WA -L-AJ'ZI WA -L-KASAL, WA -L-BUKHLI WA -L-
JUB'N, WA DAL'I -D-DAINI WA GALABATI -R-RIJAAL].

« Iwo Olohun, mo n sadi Re nibi aibalẹ-ọkan ati ibanuje, ati ikaare ati oroju, ati ahun, ati oḷe, ati eru gbese, ati nibi ki gbese o bori mi, ati nibi ki awon eniyan o bori mi ». Bukhari l'o gbe e jade.

ADUA TI ENI TI N SE IROYIROYI NINU
IRUN ATI NINU KEWU KIKA LORI IRUN
YOO SE

'Oluwaaṛe yoo so pe':

« أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ». [رواه مسلم].

[AUUDZU BI-L-LAHI MINA -SH-SHAITAANI -R-RAJEEEM],

« "Mo n fi Olohun wa isadi kuro ni oḍo esu eni-egbe"; yoo si maa fe atẹkun ti o ni ito ninu si apa alaafia re leṣmẹta ». Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI ENI TI NNKAN KAN BA SORO FUN
YOO SE

« اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا
شِئْتَ سَهْلًا ». [رواه ابن سعد في صحيحه].

[ALLAHUMMA LA SAHLAN ILLA MAA JA'AL'TAHU SAHLAN WA ANTA TAJ'ALU -L-HAZNA IDZAA SHITTA SAHLAN].

« Iwọ Qlọhun, kò si ohun t'ọ rọrun afi ohun ti O ba se ni irọrun, Iwọ A si maa sọ ohun ti o soro di irọrun ti O ba fẹ ». Ibn Hibbaan l'ọ gbe e jade.

OHUN TI ENI TI O BA DESE KAN YOO WI ATI OHUN TI YOO SE

Ojise Qlọhun “ikẹ ati ọla Qlọhun k'ọ maa ba a” sọ pe:

« ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ».

« Eru Qlọhun kan kò ni i deşẹ kan, ki o wa se aluwala daadaa, ki o si dide ki raka meji, leyin naa ki o tọrọ aforijin lọdọ Qlọhun afi ki Qlọhun O se aforijin fun un ». Abu-Daa'ud ati At-Tirmidziyyu l'ọ gbe e jade.

ADUA ATILE ESU ATI IROYIROYI RE JINNA

1- Fifi Qlọhun wa isadi kuro ni ọdọ esu. [Abu-Daa'ud ati At-Tirmidziyyu l'ọ gbe e jade].

2- Irun pipe. [Bukhari ati Muslim l'ọ gbe e jade].

3- Sise iranti Qlọhun “Al-dzikir”, ati kika Al-Qur'aan.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI NNKAN
TI KO FE BA SELE SI I, TABI NIGBA TI APA
RE KO BA KA ORO ARA RE MO

« قَدَّرُ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ». [رواه مسلم].

[DADARU -L-LAHI WA MAA SHAA'A FA'AL].

« Eleyii ni akọọlẹ Ọlọhun, ohun ti O si fẹ l'O se ».
[Muslim l'o gbe e jade].

BIBA ENI TI WON BIMỌ FUN YỌ ATI BI
YOO TI DAHUN

Eniyan yoo sọ fun un bayii pe:

« بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ لَكَ، وَشَكَرْتَ الْوَاهِبَ،
وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرَزَقْتَ بِرَّهُ ».

[BAARAKA -L-LAHU LAKA FEE -L-MAWHUUBI LAK, WA
SHAKARTA -L-WAAHIB, WA BALAGA ASHUDDAH, WA
RUZIQTA BIRRAH].

« Ọlọhun O fun ọ loore ẹbun ti O bun ọ, yoo si jẹ ki
o le dupe fun Eni ti o bun ọ lefun naa [Ọlọhun], yoo
si mu un dagba, yoo si fi igbọrọ si ọ lenu rẹ rọ ọ
lọrọ».

Eni ti won bimọ fun naa yoo si dahun pe:

« بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَحَزَاكَ اللَّهُ حَزْرًا، وَرَزَقَكَ اللَّهُ
مِثْلَهُ، وَأَحْرَكَ ثَوَانِكَ ».

[BAARAKA -L-LAHU LAKA WA BAARAKA ALAIK, WA
JAZAAKA -L-LAHU KHAIRAN, WA RAZAQAKA -L-LAHU
MITH'LAH, WA AJZALA THAWAABAK].

« Qlqhun O se oore Re fun o, yoo si se e le o lori,
yoo san o lesan rere, yoo si fi iru re ta o lora, yoo si
je ki esan re o po ».

OHUN TI A O FI MAA WA ISQ FUN AWON
OMODE

Ojisq Qlqhun 'ike ati q la Qlqhun k'o maa ba a'
a maa wa isq fun Hasan ati Husain bayii pe:

« أَعْبَدُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّامَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ، وَمِنْ
كُلِّ عَيْنٍ لَأَمَةٍ ». [رواه البخاري].

[U'EE'DZU KUMAA BI KALIMAATI -L-LAHI -T-TAAMMATI MI
KULLI SHAITAANIN WA HAAMMAH, WA MI KULLI AININ
LAAMMAH].

« Mo n fi awon gbolohun Qlqhun ti o pe wa isadi
fun yin kuro ni qd q gbogbo esu ati gbogbo franko
tabi kokoro oloro [ati eyi ti ki i se oloro], ati kuro
nibi gbogbo oju-koju ». Bukhari l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE FUN ALAARE
NIGBA TI O BA BE E WO

« - 1 « لَا يَأْسَ ظَهُورُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ». [رواه البخاري].

[LAA BA'ASA TAHUURUN IN SHAA'A ALLAH].

« O kò ni i ri aburu kankan, amodi rẹ yii yoo si jẹ afonimo kuro ninu awon ẹsẹ ati awon asise ti Olohun ba fẹ ». Bukhari l'o gbe e jade.

2- Eniyan yoo wi awon gbolohun ti n bo yii leemeje:

« أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيكَ ». [رواه ابو
مرد و الترمذی]

[AS'ALU -L-LAHA -L-ADZEEMA RABBA -L-ARSHI -L-ADZEEMI
AN YASHFIYAK].

« Mo n be Olohun Oba t'O ga Oba Alaga oia titobi pe ki O wo o san ». Abu-Daa'uud ati Al-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

OLA TIN BE FUN SISE ABEWO ALAARE

Ojise Olohun "ike ati oia Olohun k'o maa ba a" so pe:

« إذا عاد الرجل أعماه المسلم مشى في حِرَافَةِ الْحِثَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ
فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه سبعون
ألف ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه سبعون ألف
ملك حتى يصبح ». [رواه احمد و الترمذی و ابن ماجه]

« Nigba ti eniyan ba se abewo omọ-iyá rẹ Musulumi ti n se aarẹ, ori oju-ona Al-Janna -ogba idera- ni yoo wa titi yoo fi jokoo "lodo rẹ", nigba ti o ba si jokoo "lodo rẹ" tan aanu Olohun yoo bo o, ati pe ti o ba se pe aarọ kutu ni o se abewo yii si, awon Malaika egberun lona aadorin yoo maa sadua fun un titi ti

yoo fi lele, beę ni ti o ba je pe irọle ni o se abewo naa si awon Malaika eęberun lona aadorin yoo maa se adua fun un titi yoo fi ji lowuro ». Ahmad ati Al-Tirmidziyyu ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

ADUA ALAARE TI KO SI IRETI ATISEMI FUN UN MO

١- « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى »
[غفر له]

[ALLAHUMMA G-FIR LEE WA -R-HAMNEE WA ALHIQNEE BI-R-RAFEEQI -L-A'ALAA].

« Iwo Olohun, dari jin mi, ke mi, fi mi pelu ijo awon ti won ga ju ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

2- Nigba ti asiko iku Anabi wa "ike ati ọla Olohun k'o maa ba a" de o bere si ni ti owọ re mejeeji bo inu omi o si n fi owọ mejeeji naa pa oju re; o si n so bayii pe:

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، إِنَّ لِمَوْتِ لَسَكْرَاتٍ » . [رواه البخاري]

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU INNA LILMAWTI LASAKARAAT].

« Ko si o ba kan ti o to lati fi ododo josin fun yato si Olohun Oba; dajudaju awon daamudaabo n be fun iku ». Bukhari l'o gbe e jade

« ۳ - لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ». [رواه الترمذي وابن ماجة]

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WA -L-LAHU AKBAR, LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAH, LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH, LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMD, LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WA LAA HAWLA WA LAA QUWWATA ILLA BI -L-LAH].

« Kò si ọba kan ti o tọ lati sin lododo yatọ si Ọlọhun Ọba, Ọlọhun l'O tobi ju, kò si ọba kan ti o tọ lati sin lododo yatọ si Ọlọhun nikan soso, kò si ọba kan ti o tọ lati sin lododo yatọ si Ọlọhun nikan soso, kò si orogun fun Un, kò si ọba kan ti o tọ lati sin lododo yatọ si Ọlọhun, tiE ni gbogbo ọla ati gbogbo ọpẹ i se, kò si ọba kan ti o tọ lati sin lododo yatọ si Ọlọhun, kò si ọgbọn kan, bẹẹ ni kò si agbara kan lẹyin Ọlọhun Ọba ». At-Tirmidziyyu ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

OHUN TI A O NU ENI TI N POKAAKU

Ojise Ọlọhun "ike ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a" sọ pe:

« من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ». [رواه ابو داود].
 « Enikeni ti ọrọ t'o sọ gbeyin -laye- ba je [LAA ILAAHA ILLA -L-LAH] "kò si ọba kan ti o tọ lati sin

lododo yatọ si Ọlọhun Ọba” o luwaare yoo wọ Al-Janna -ogba idera- ». Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

ADUA ENI TI ADANWO SE

« إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُمَّ أَحْرِنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا ». (روه مسلم).

[INNA LI-L-LAHI WA INNA ILAIHI RAAJI'UUN, ALLAHUMMA 'JURNEE FEE MUSEEBATEE WA AKHLUF LEE KHAIRAN MINHAA].

« Dajudaju ti Ọlọhun ni awa i se, ati pe ọdọ Rẹ ni a o pada si, Ọlọhun san mi lẹsan -suuru mi ati idaamu mi lori- adanwo ti o se mi, wa fi ohun ti o loore ju u lo jaarọ rẹ fun mi ». Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI A O SE NIGBA TI A BA N PA OJU OKU DE

« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي [***] وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَأَخْلِفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْعَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَأَفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ ». (روه مسلم).

[ALLAHUMMA -G-FIR LI [***] WA -R-FA'A DARAJATAHU FEE -L-MAHDIYYEEN, WA KH'LUFHU FEE AQIBIHI FEE -L-GAABIREEN, WA -G-FIR LANAA WA LAHU YAA RABBA -L-AALAAMEEN, WA -F-SAH LAHU FEE QABRIH, WA NAWWIR LAHU FEEHI].

« Iwo Qlohun dari jin "lagbaja", se agbega ipo re laarin awon eni ti o mona, se arole fun un lori awon ti won seku ninu awon aromodomu re, se aforijin fun awa ati oun, Iwo Qba gbogbo e da, gba a laye ninu saare re, si tan imole si inu re fun un ». Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TIA O SE FUN OKU NIGBA TIA BAN
KIRUN SII LARA

١ - « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنَّهُ، وَاکْرِمْ
 نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالتَّلَجِ وَالتَّيْدِ، وَتَقِهِ مِنَ
 الْعَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ التَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا
 خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ،
 وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ ». [رواه
 مسلم]

[ALLAHUMMA -G-FIR LAHU, WA 'R'HAMHU, WA'AFIHI,
 WA'AFU ANHU, WA AKRIM NUZULAHU, WA WASSI'I
 MUDKHALAHU, WA -G-SILHU BI-L-MAA'I WA -TH-THALJI
 WA-L-BARAD, WA NAQQIHI MINA -L-KHATAAYAA, KAMAA
 NAQQAITA -TH-THAWBA -L-ABYADHA MINA -D-DANAS, WA
 ABDILHU DAARAN KHAIRAN MIN DAARIHI, WA AHLAN
 KHAIRAN MIN AHLIHI, WA ZAWJAN KHAIRAN MIN ZAWJIHI,
 WA ADKHILHU -L-JANNATA, WA A'IDZHU MIN ADZAABI -L-
 QABR, WA ADZAABI -N-NAR].

« Iwọ Qlọhun fi ori jin in, kẹ ẹ, la a “kuro ninu adanwo”, se amojukuro fun un, se aponle ibusokalesi re, fẹ ibi ti a o gbe e wọ, wẹ ẹ pẹlu omi ati omi yinyin ati omi ojo, fọ ọ mọ kuro ninu awon asise re gege bi O ti se mọ asọ funfun kuro ninu idoti, fi ile miiran ti o dara ju ile re lo jaarọ fun un, ati ẹbi ti o dara ju ẹbi re lo, ati iyawo ti o dara ju iyawo re lo, mu un wọ Al-Janna -ogba idera-, sọ ọ nibi iya saare ati iya ina ». Muslim l'o gbe e jade.

۲- « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَاتِنَا وَمَيَاتِنَا، وَشَاهِدَاتِنَا وَعِقَابِنَا، وَصَغِيرَاتِنَا وَكَبِيرَاتِنَا، وَذَكَرَاتِنَا وَأَنْثَاتِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَخِيهِ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ، وَمَنْ تَرَفَيْتَهُ مِنَّا فَتَرَفُهُ عَلَيَّ الْإِيمَانَ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَرْضَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ » . [رواه احمد وابن ماجة]

[ALLAHUMMA -G'FIR LI-HAYYINAA, WA MAYYITINAA, WA SHAA'HIDINAA, WA GAA'IBINAA, WA SAGEERINAA, WA KABEERINAA, WA DZAKARINAA, WA UNTHAANAA, ALLAHUMMA MAN AH'YAITAHU MINNAA FAHAYYIHI ALAA -L-ISLAM, WA MAN TAWAFFAITAHU MINNAA FATAWFAFHU ALAA -L-I'IMAAN, ALLAHUMMA LAA TAHRIMNAA AJRAHU, WA LAA TUDHILLANAA BA'ADAH].

« Iwọ Qlọhun, dari jin abemi wa ati oku wa, ẹni ti n bẹ nibi ninu wa, ati ẹni ti kò si nibi, omode wa ati agba wa, ọkunrin wa ati obinrin wa, Iwọ Qlọhun, gbogbo ẹni ti O ba mu maa bẹ ni aaye ninu wa, jẹ ki

o maa sɛmi lori Islam, gbogbo ɛni ti O ba si gba ɛmi re ninu wa, gba ɛmi re lori igbagbo-ododo "Imaani", Iwo Qlqhun ma se dun wa ni laada re, ma si se si wa lona leyin re ». Ahmad ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

٣- « اللَّهُمَّ إِنْ [فَلَانًا بِنَ فُلَانٍ] فِي ذِمَّتِكَ، وَحِيلِ جَوَارِكَ، فَفَهْ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاعْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ». (رواه أبو داود وابن ماجه)

[ALLAHUMMA INNA [lagbaja] IBNA [tamedo] FEE DZIMMATIKA, WA HABLI JIWAARIK, FAQIHI MIN FITNATI -L-QABR, WA MIN ADZAABI -N-NAAR, FA ANTA AHLU -L-WAFAA'I WA -L-HAQQ, FA-G-FIR LAHU WARHAMHU INNAKA ANTA -L-GAFUURU -R-RAHEEM].

« Iwo Qlqhun, dajudaju lagbaja omọ lagbaja ti wa ni abe aabo -ati ifinilayabale- Re bayii, o si ti wa ninu iso Re pelu, so o nibi amiwo saare ati iya ina, Iwo l'O ni pipe adehun ati ododo, tori naa dari jin in, ki O si ke e, dajudaju Iwo ni Alaforijin Alaaanu ». Abd-Daa'uud ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

٤- « اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَأَبْنُ أَمَّتِكَ اِحْتَاَجُ اِلَى رَحْمَتِكَ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَرِّدْ فِي حَسَنَاتِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَحَاوَزْ عَنْهُ ». (الترمذى)

[ALLAHUMMA ABDUKA WA BNU AMATIKA IHTAAJA ILAA RAHMATIK, WA ANTA GANIYYUN AN ADZAABIHI, IN KAANA MUHSINAN FAZID FEE HASANAATIHI, WA IN KAANA MUSEE'AN FATAJAAWAZ ANHU].

« Iwo Olohun, eru Re ti o je omọ eru Re yii n bukata aanu Re, Iwo si je Eri ti O roro kuro nibi jijẹ e niya, ti o ba je wi pe oluse-rere ni se alekun rere re, ti o ba si je wi pe aladaa ni se amojukuro fun un ». Al-Haakim l'o gbe e jade.

ADUA TI A O SE FUN OKU TI O BA JE OMODE

١- « اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ». [رواه مالك ومعه].

[ALLAHUMMA A'IDZHU MI ADZAABI -L-QABR].

« Iwo Olohun, so o nibi iya saare ». Malik ati awon muhran l'o gbe e jade.

O si dara ti eniyan ba si se adua fun un bayii pe:

« اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَذُخْرًا لِدِينِهِ، وَشَفِيعًا مُحَابًا، اللَّهُمَّ ثَقُلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أَحْوَرَهُمَا، وَالْحَقُّهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي سِي كِفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَفِي بَرَخْمَتِكَ عَذَابِ الْحَمِيمِ، وَأَبْدَلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَسْلَفِنَا، وَأَقْرَابِنَا، وَمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ ».

[ALLAHUMMA -J-AL'HU FURATAN WA DZUKHURAN LI WALIDAIHI, WA SHAFEE'AN MAJAABAN, ALLAHUMMA-TH-THAQOIL BIHI MAWAAZINAHUMAA, WA A'ADZIM BIHI UJUURAHUMAA, WA ALHIQHU BI SAALIHI -L-MU'UMININA, WA J'ALHU FEE KAFAALATI IBRAHEEMA, WA QIHI BI RAHMATIKA ADZAABA -L-JAHEEM WA ABDILHU DAARAN KHAIRAN MIN DAARIHI, WA AHLAN KHAIRAN MIN AHLIHI, ALLAHUMMA -G-FIR LI-ASLAAFINAA, WA AFRAATINAA, WA MAN SABAQANAA BI -L-IMAAAN]

« Iwo Qlohun, se e ni asiwaju, ati ere ti a gbe pamọ di ojo lilo fun awon obi re mejeeji, se e ni olusipe ti ipẹ re yoo je gbigba, Iwo Qlohun, mu un je ki osunwon awon obi re mejeeji o wuwo, mu un je ki esan won o tobi, pa a po mo awon oluse-rere ninu awon olugbagbo-ododo, fi i si abe itoju Anabi Ibrahim, so o pelu aanu Re nibi iya ina Jaheem, fi ile ti o dara ju ile re lo jaaro ile re fun un, ati ebi ti o dara ju ebi re lo, Iwo Qlohun, fi ori jin awon asiwaju wa, ati awon ere-atisiwaju wa, ati awon ti won siwaju wa pelu igbagbo-ododo ».

٢- « اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا قَرَطًا، وَسَلَفًا، وَأَجْرًا ». [شرح البرقي في شرح

السنن وغيره].

[ALLAHUMMA -J-AL'HU LANAA FARATAN, WA SALAFAN, WA AJRAA].

« Iwo Qlohun, se e ni araawaju, ati asiwaju, ati esan fun wa ».

ADUA IBANIKEDUN

« **إِنَّ لِيْهِ مَا أَحَدٌ، وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَلْتَنْصِرْ، وَلْتَحْتَسِبْ.** » . [رواه البخاري].

[INNA LI-L-LAHI MAA AKHADZA, WA LAHU MAA A'ATAA, WA KULLU SHAIN IN INDAHU BI AJALIN MUSAMMAA, FALTASBIR WALTAHTASIB].

« Dajudaju ti Qlqhun ni gbogbo ohun ti O gba pada, Oun naa l'O si ni gbogbo ohun t'O jogun fun wa, ati pe gbogbo nkan pata l'o ni asiko ti Qlqhun Qba da fun un, tori naa se suuru, ki o si reti ekan re loḍo Qlqhun Qba ». Bukhari l'o gbe e jade.

Ti eniyan ba si so pe:

« **أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكَ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ، وَغَفَرَ لِمَنْبَتِكَ.** »

[A'ADZAMA -L-LAHU AJRAKA WA AH'SANA AZAA'AKA WA GAFARA LIMAYYITIK].

« Qlqhun O je ki ekan re o tobi, yoo si tu o ninu, yoo si se aforijin fun eni re ti o ku ». O dara.

ADUA TIA O SE NIGBA TIA BAN GBE OKU SINU SAARE

« **بِسْمِ اللَّهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ.** » . [رواه ابو داود].

[BISMI -L-LAH, WA ALAA SUNNATI RASUULI -L-LAH].

« -A n gbe e sinu saare- ni oruko Qlqhun, ati lori ilana Ojise Qlqhun ». Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

**ADUA TI A O SE FUN OKU LEYIN TI A BA
SIN IN TAN**

« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ كَبْتَهُ ». [رواه أبو داود والحاكم].

[ALLAHUMMA -G-FIR LAHU ALLAHUMMA THABBIT'HU].

« Qlqhun dari jin in, Qlqhun fi eſe re rinle ». Abu-
Daa'uud ati Haakim l'o gbe e jade.

**ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA
BE AWON SAARE WO**

« السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِن
شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَفْدِينَ مِنَّا
وَالْمُسْتَأْجِرِينَ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَاقِبَةَ ». [رواه مسلم وابن ماجه].

[ASSALAAMU ALAIKUM AHLA -D-DIYAARI MINA -L-
MU'UMINEENA WA -L-MUSLIMEEN, WA INNAA IN SHAA'A
ALLAHU BIKUM LAHIQUUN, WA YARHAMU -L-LAHU -L-
MUSTAQDIMEENA MINNAA WA -L-MUSTA'AKHIREEN,
AS'ALU -L-LAHA LANAA WA LAKUMU -L-AAFIYAH].

« Alaafia Qlqhun k'o maa ba eyin olugbagbo-ododo
[Mumini] ati eyin olugbafa fun Qlqhun [Musulumi]
ti e n be ninu awon saare wonyi, awa naa n bo wa ba
yin ti Qlqhun ba fe, Qlqhun k'O dari jin awon
asiwaju wa ati awon eni-ikeyin ninu wa, mo n be
Qlqhun pe ki O se amojukuro fun awa ati eyin ».
Muslim ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI AFEFE

BA N FE

١- « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا ». [رواه أبو داود وابن ماجه].

[ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA KHAIRAHAA, WA AUUDZU BIKA MIN SHARRIHAA].

« Iwo Ọlọhun, mo n tọrọ oore rẹ lọdọ Rẹ, mo si n fi Ọ wa isadi nibi aburu rẹ ». Abu-Daa'uud ati Ibn Maajah l'ogbe e jade.

٢- « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ». [عند ابن ماجه].

[ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA KHAIRAHAA, WA KHAIRA MAA FEEHAA, WA KHAIRA MAA URSILAT BIHI, WA AUUDZU BIKA MIN SHARRIHAA, WA SHARRI MAA FEEHAA, WA SHARRI MAA URSILAT BIHI].

« Iwo Ọlọhun, mo n tọrọ oore rẹ lọdọ Rẹ, ati oore ohun ti n bẹ ninu rẹ, ati oore ti a fi ran an, mo si n fi Ọ wa isadi nibi aburu rẹ, ati aburu ohun ti n bẹ ninu rẹ, ati aburu ti a fi ran an ». Bukhari ati Muslim l'ogbe e jade.

ADUA TI A O SE NIGBA TI ARA BA SAN

« مُبْحَانُ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ حِيفَتِهِ ». [رواه مالك في الموطأ].

[SUBHAANA -L-LADZEE YUSABBIHU -R-RA'ADU BI HAMDHI
WA -L-MALAAIKATU MIN KHEEFATIH].

« Mimọ ni fun -Qlọhun- Ẹni ti ara n se afọmọ fun
peju fifi ẹyin fun Un, ti awọn Malaika naa si n se
afọmọ fun Un nitori ibeju Re ». Maalik l'o gbe e jade.

APA KAN NINU AWON ADUA ITORO OJO

١ - « اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُعِينًا مَرِيئًا مَرِيئًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ،

عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ ». [رواه ابو داود].

[ALLAHUMMA AS'QINAA GAITHAN MUGEETHAN MAREE'AN
MAREE'AN, NAAFI'AN GAIRA DAARRIN, AAJILAN GAIRA
AAJIL].

« Iwo Qlọhun, ro ojo fun wa ni ojo ti yoo ba wa mu
idaamu wa kuro, ti igbeyin re yoo si dara, ojo ti yoo
mu ki ile o ruwe, ti yoo si se wa lanfaani, ti ko si ni i
ko inira ba wa, ro o fun wa laipe ma se je ki o pe ».
Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

٢ - « اللَّهُمَّ اغْنِنَا، اللَّهُمَّ اغْنِنَا، اللَّهُمَّ اغْنِنَا ». [يعن عليه].

[ALLAHUMMA AGITHNAA, ALLAHUMMA AGITHNAA,
ALLAHUMMA AGITHNAA].

« Iwo Qlọhun, ro ojo fun wa, Iwo Qlọhun, ro ojo fun
wa, Iwo Qlọhun ro ojo fun wa ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e
jade.

٣ - « اللَّهُمَّ اسقِ عِبَادَكَ، وَنَهَائِمَكَ، وَأَنْشُرْ رَحْمَتَكَ، وَأَخِي

بَلَدَكَ الْعَيْتَ ». [رواه ابو داود].

[ALLAHUMMA -S-QI IBAADAK, WA BAHAA'IMAK, WA -N-SHUR RAHMATAK, WA -H-YI BALADAKA -L-MAYYIT].

« Iwo Ọlọhun, fun awon eru Re ati awon nnkan-qsin Re ni omi mu, si tan ike Re ka, wa so ilu Re ti o ti ku ji ». Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI OJO BAN RO

« اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ». [رواه البخاري].

[ALLAHUMMA SAYYIBAN NAAFI'AN].

« Iwo Ọlọhun, se e ni ojo alanfaani ». Bukhari l'o gbe e jade.

AL-DZKIR "IRANTI" TI ENIYAN YOO SE LEYIN TI OJO BA RO TAN

« مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ». [سنن عبد]

[MUTIRNAA BI FADHLI -L-LAHI WA RAHMATIHI].

« Ọla Ọlọhun ati aanu Re l'o mu ki ojo o ro fun wa ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

APA KAN NINU AWON ADUA TI A O SE NIGBA TI A BAN FE KI OJO O WAWO

« اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا. اللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالظَّرَابِ، وَتَطْوِينِ الْأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ ». [سنن عبد]

[ALLAHUMMA HAWAALAINAA WA LAALAINAA. ALLAHUMMA ALAA -L-AAKAAMI WA -D-DZIRAAB, WA BUTUUNI -L-AWDIYAH, WA MANAABITI -SH-SHAJAR].

« Iwọ Qlọhun, awọn ayika wa ni O maa rọ ọ si, ma se rọ ọ si wa lori mọ, Iwọ Qlọhun, jẹ ki o maa rọ sori awọn ilẹ giga, ati awọn oke keekekee, ati inu awọn oju-do, ati si ara awọn itakun awọn igi ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA RI OSU

« اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهْلُهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا نُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى، رَبَّنَا وَرَبِّكَ اللَّهُ » . [رواه الترمذى]

[ALLAHU AKBAR, ALLAHUMMA AHILLAHU ALAINAA BI -L-AMNI WA -L-IMAAAN, WA -S-SALAAMATI WA -L-ISLAAM, WA -T-TAWFEEQI LIMAA TUHIBBU RABBANAA WA TARDHAA, RABBUNAA WA RABBUKA -L-LAH].

« Qlọhun l'O tobi ju, Qlọhun jẹ ki osu yii o le fun wa pẹlu ibalẹ-ọkan ati igbagbo-ododo, ati alaafia ati igbafa fun Qlọhun Oba, ati kongẹ lọ sidi ohun ti Iwọ Oluwa wa N fẹ ti O si yonu si, Qlọhun ni Oluwa awa ati iwọ [OSU] ». Al-Tirmidziyyu l'o gbe e jade

ADUA TI ALAAWE YOO SE NIGBA TI O BA FE SINU

« ۱ - ذَهَبَ الظَّمْأُ وَأَتْنَلتِ العُرْوَةُ، وَتَبَتِ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ » . [رواه أبو داود وغيره]

[DZAHABA -D-DZAMA'U WA -B-TALLATI -L-URUUQ, WA THABATA -L-AJRU INSHA'A ALLAHU].

« Ongbẹ ti lọ, awọn isan ara mi si ti tutu "bayii", ẹsan "aawẹ" naa si ti fi ẹsẹ rinlẹ bi Ọlọhun ba fẹ ».

Abu-Daa'uud ati awọn miiran l'o gbe e jade.

٢- « اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسَّعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ

تُغْفِرَ لِي ». [رواه ابن ماجه].

[ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA BI RAHMATIKA -L-LATEE WASI'AT KULLA SHAIN IN AN TAGFIRA LEE].

« Iwọ Ọlọhun, mo n fi aanu Rẹ ti o kari gbogbo nnkan tọrọ lọdọ Rẹ pe ki O se aforijin fun mi ».

Maajah l'o gbe e jade

ADUA TI I SIWAJU OUNJE

1- Anabi wa "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" so pe:

« إِذَا أَكَلْتُ أَحَدَكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ

فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ ». [رواه أبو داود و الترمذی]

« Nigba ti ẹnikan yin ba fẹ jẹun ki o so pe:

[BISMI -L-LAH] "Mo bẹrẹ ni orukọ Ọlọhun"; ti o ba gbagbe [lati se bẹ] nigba ti yoo bẹrẹ si jẹun, ki o so "nigba ti o ba ranti" pe:

[BISMI -L-LAHI FEE AWWALIHI WA AAKHIRIHI] "Mo bẹrẹ ni orukọ Ọlọhun lakokọ ati ni ipari rẹ" ».

Abu-Daa'uud ati Al-Tirmidziyyu l'o gbe e jade

2- Ojise Qlqhun "ki ike ati pla Qlqhun o maa ba a"
tun so pe:

« من أطعمه الله الطعام فليقل: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا
مِنْهُ؛ ومن سقاه الله لنا فليقل: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ. »
[روه ترمذی].

« Enikeni ti Qlqhun ba fun ni ounje je ki o so pe:
[ALLAHUMMA BAARIK LANAA FEEHI WA AT'IMNAA
KHAIRAN MINHU] "Qlqhun fi oore si i fun wa, k'O si
fun wa ni eyi t'o loore ju cleyii lo je"; eniyowu ti
Qlqhun ba si fun ni wara "miliiki" mu ki o wi bayii
pe: [ALLAHUMMA BAARIK LANAA FEEHI WA ZIDNAA
MINHU] "Iwo Qlqhun fi oore si i fun wa, k'O si se
alekun re fun wa" ». At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE LEYIN OUNJE

۱- « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ
مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ ». [أخرجه أصحاب السنن بإسنادها].

[AL-HAMDU LI-L-LAHI -L-LADZEE AT'AMANEE HAADZAA WA
RAZAQANIHI, MIN GAIRI HAWLIN MINNEE WA LAA
QUWWAH].

« Ope ni fun Qlqhun t'O fun mi ni ounje yii je, t'O si
ro mi loro pelu re, lai ko je wi pe ogbon tabi agbara
mi loro si i ». Awon oni-tira Sunna yato si An-Nasaa'i l'o gbe e jade.

٢- « الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدِّعٍ، وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبَّنَا ». [رواه البخاري والترمذي].

[AL-HAMDU LI-L-LAHI HAMDAN KHATHEERAN TAYYIBAN MUBAARAKAN FEEHI GAIRA MAKFIYYIN WA LA MUWADDA'IN WA LA MUSTAGNAN ANHU RABBANAA].

« Ope ni fun Olohun, ni ope pupo ti o dara ti o si loore ninu, ope ti o se pe n ko le du u ki o dogba pelu odiwon oore ti Olohun se fun mi, ope ti ko see pati, ti ko si see ma se rara. Iwo Oluwa wa ». Bukhari ati At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

ADUA TI ALEJO YOO SE FUN OLOUNJE TI O JE

« اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاعْفِرْ لَهُمْ وَأَرْحَمْهُمْ ». [رواه مسلم]

[ALLAHUMMA BAARIK LAHUM FEE MAHA RAZAQTAHUM, WA -G-FIR LAHUM WA -R-HAMHUM].

« Olohun fi oore si ohun ti O fi ro won loro, si se aforijin fun won, ki O si ke won ». Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE FUN ENI TI O BA FUN UN NI OMI MU TABI ENI TI O FE FUN UN NI OMI MU

« اللَّهُمَّ اطْعِمْ مَنْ اطْعَمْتَنِي وَامْسُقْ مَنْ سَقَيْتَنِي ». [رواه مسلم]

[ALLAHUMMA AT'IM MAN AT'AMANEE WA -S-QI MAN SAQAANEE].

« Qlq̄hun fun ɛni ti o fun mi ni ounjɛ ni ounjɛ jɛ, si fun ɛni ti o fun mi ni omi mu ni omi mu ». Muslim l'o gbe e jade.

**ADUA TI ENIYAN YOO SE FUN AWON TI O
SINU NI ILE WON**

« أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ ». [رواه أبو داود وابن ماجه وقسبي في عمل اليوم والليله].

[AFTARA INDAKUMU -S-SAA'IMUUN, WA AKALA TA'AAMAKUMU -L-ABRAAR, WA SALLAT ALAIKUMU -L-MALAAIKAH].

« Awon alaawe o maa sinu loḍo yin, ɛ o si maa ri awon ɛni-rere jɛ ounjɛ yin, awon Malaaika o si maa se adua fun yin ». Abu-Daa'uud ati Ibn Maajah ati An-Nisaa'i l'o gbe e jade.

**ADUA TI ALAAWE O SE NIGBA TI WON BA
GBE OUNJE WA TI O SI KO LATI JA AAWE
RE**

Ojise Qlq̄hun "ikɛ ati ɔla Qlq̄hun k'o maa ba a" sɔ pe:

« إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائماً فيصّل، وإن كان مفطراً فليطعم ». [رواه مسلم].

« Ti won ba pe ɛnikan yin wa sibi ounjɛ-apejɛ ki o jɛpe, ti oluwaare ɛ ba ni aawe ki o se adua fun won, ti kò ba si ni aawe ki o jɛun ». Muslim l'o gbe e jade.

OHUN TI ALAAWE O WI NIGBA TI ENIKAN
BA BU U

« إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ » . [عن علي].

[INNEE SAA'IM, INNEE SAA'IM].

« Dajudaju emi n gbaawẹ, dajudaju emi n gbaawẹ ».
Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BA RI
AKOKOJADE ESO

« اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا
فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدُنَا » . [رواه مسلم].

[ALLAHUMMA BAARIK LANAA FEE THAMARINAA, WA
BAARIK LANAA FEE MADEENATINAA WA BAARIK LANAA
FEE SAA'INAA, WA BAARIK LANAA FEE MUDDINAA].

« Qlqhun ba ni fi oore si eso wa, si ba ni fi oore si ilu
wa, tun ba wa fi oore si abọ osunwọn wa, si ba wa fi
oore si agolo osunwọn wa » . Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TI ENI TI O SIN O SE

Ojise Qlqhun "ike ati qla Qlqhun k'o maa ba
a" so pe:

« إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ
صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَإِذَا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ:
يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِأَلْسِنَتِكُمْ » . [رواه البخاري].

« Nigba ti ɛnikan yin ba sin ki o sọ pe: [AL-HAMDU LI-L-LAH] “Mo dupe fun Olohun”: ki omo-iya re tabi ɛlegbe re o sọ fun un pe: [YARHAMUKA -L-LAH] “Olohun O ke o”, ti o ba si sọ fun un wi pe: [YARHAMUKA -L-LAH], ki o sọ pe: [YAHDEEKUMU -L-LAHU WA YUSLIHU BAALAKUM] “Olohun O fi yin moṅa, yoo si tun isesi yin se”. Bukhari l’o gbe e jade.

OHUN TI A O SỌ FUN ALAIGBAGBO
[KEFERI] NIGBA TI O BA SIN TI O SI DUPE
FUN OLOHUN PE: AL-HAMDU LI-L-LAH

« يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصَلِّحُ بِالْكُمُ ». [رواه احمد وابو داود والترمذى].

[YAHDEEKUMU -L-LAHU WA YUSLIHU BAALAKUM].

« Olohun O fi yin moṅa, yoo si tun isesi yin se ». Ahmad ati Abu-Daa’uud ati At-Tirmidziyyu l’o gbe e jade.

ADUA TI A O SE FUN ENI TI O GBAYAWO

« بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ ». [أمره أصحاب النبي (إلى الناس)].

[BAARAKA -L-LAHU LAK, WA BAARAKA ALAIK, WA JAMA’A BAINAKUMAA FEE KHAIR].

« Olohun O se oore fun o, yoo si soore le o lori, yoo si so ɛyin mejeeji po sinu daadaa ». Awon on-tira Sunna yato si An-Nasaa’i l’o gbe e jade.

**ADUA TI ENI TI O GBAYAWO ATI ENI TI O
RA ERANKO GUNGUN O SE**

Ojise Ọlọhun "ki ike ati ọla Ọlọhun o maa ba a" sọ pe:

« إذا تزوج أحدكم امرأة، أو إذا اشترى خادماً فليقل: اللَّهُمَّ
إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا حَبَلَتْهَا عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا
وَشَرِّ مَا حَبَلَتْهَا عَلَيْهِ، وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بذروة سنامه
وليقول مثل ذلك ».

« Nigba ti ẹnikan yin ba fe obinrin kan, tabi o ra ọmọ-ọdọ "ẹru" kan ki o sọ pe:-

[ALLAHUMMA INNEE AS'ALUKA KHAIRAHAA WA KHAIRA
MAA JABALTAHAA ALAIHI, WA AUUDZU BIKA MIN
SHARRIHAA WA SHARRI MAA JABALTAHAA ALAIHI]

"Ọlọhun mo n toṣo pe ki O se oore re fun mi ati oore ti O se adamọ re le e lori, mo si n fi Ọ wa isadi nibi aburu re ati aburu ti O se adamọ re le e lori". Ati pe nigba ti ẹnikan yin ba ra rakunmi kan ki o di oke ike ẹyin re mu ki o si wi iru awon gbolohun yii ». Abu-Daw'ud ati Ibn Majah l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN O SE SIWAJU KI O TOO
BA IYAWO RE LO PO

« بِسْمِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ حَتِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَحَتِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا »
[سنن عليه].

[BISMI -L-LAH. ALLAHUMMA JANNIBNAA -SH-SHAITAN,
WA JANNIBI -SH-SHAITAANA MAA RAZAQTANAA].

« Ni orukọ Ọlọhun, Ọlọhun gbe esu jinna si wa, si
gbe esu naa jinna si ohun ti O ba fi ta wa lọre ». Bukhari ati Muslim l'ọ gbe e jade.

ADUA IBINU

« أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ». [سنن عليه].

[AUUDZU BI-L-LAHI MINNA -SH-SHAITANI -R-RAJEEM].

« Mo n fi Ọlọhun wa isadi kuro ni ọdọ esu ẹnigbe ». Bukhari ati Muslim l'ọ gbe e jade.

ADUA ENI TI O RI ENIKAN TI OLOHUN FI
ADANWO KAN

« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا آتَلَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ
مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا ». [رواه الترمذی].

[AL-HAMDU LI-L-LAHI -L-LADZEE AAFANEE MIMMAA -B-
TALAAKA BIHI WA FADH-DHALANEE ALAA KHATHEERIN
MIMMAN KHALAQA TAFDHEELAA].

« Ọpẹ ni fun Ọlọhun t'O ko mi la kuro ninu ohun ti o fi dan ọ wo, ti O si se ajulo fun mi lori ọpọlọpọ ninu awọn ẹda ti O da ni ajulo ». At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

OHUN TI ENIYAN YOO MAA WI NIBI TI O BA TI JOKOO

Ègbawa-ọrọ wa lati ọdọ Umar, "ki Ọlọhun O yonu si i", pe:

« كان يعد لرسول الله ﷺ في المجلس الواحد من قبل أن يقوم: « رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ الثَّوَابُ الْعَفُورُ ».

« A maa n ka jijade "gbolohun yii" ni igba ọgọrun lati ẹnu Ojise Ọlọhun "ki ike ati ọla Ọlọhun o maa ba a", ni ibujoko kan siwaju ki o too dide: [RABBI -G-FIR LEE WA TUB ALAIYYA INNAKA ANTA -T-TAWWAABU -L-GAFUUR] "Oluwa mi, dari jin mi, gba ironupiwada mi, dajudaju Iwo ni Olugba-ironupiwada Alaforijin"». At-Tirmidziyyu ati Ibn Maajah l'o gbe e jade.

ADUA TI I PA ESE TI ENIYAN DA NIBI TI O BA TI JOKOO RE

« سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ
وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ». [امرجه اصحابه سنن].

[SUBHAANAKA -L-LAHUMMA WA BI HAMDIK, ASH'HADU AN LAE ILAAHA ILLA ANT, ASTAGFIRUKA WA ATUUBU ILAIK].

« Mimọ ni fun Iwọ Ọlọhun, ọpẹ si ni fun Ọ, mo jẹri pe kò si ọba kan tí o lẹtọ si pe ki a fi ododo jọsin fun yatọ si Ọ, mo n tọrọ idarijin lọdọ Rẹ, mo si n ronupiwada lọ si ọdọ Rẹ ». Awọn oni-tira Sunna l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN O SE FUN ENI TI O BA SO
FUN UN PE: [GAFARA -L-LAHU LAK]
OLOHUN O FORI JIN O

« وَلَكَ ». [المرحمة احمد وناساي]

[WA LAKA].

« Ati iwọ naa ». Ahmad ati An-Nasaa'i l'o gbe e jade.

ADUA TI O SE FUN ENI O SE DAADAA SI O

« جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ». [المرحمة الترمذی]

[JAZZAKA -L-LAHU KHAIRAA].

« Ọlọhun yoo san ọ lẹsarl rere ». Ati-Termidziyyu l'o gbe e jade

OHUN TI OLOHUN FI MAA N DAABO BO NI
KURO LODO AD-DAJJAAL -OPURO
OLOJUKAN-

Ojise Ọlọhun "ikẹ ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a" sọ pe:

١- « من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من

الدجال ». روه مسلم.

« Ènikèni ti o ba ha aayah męwa ni ibeřę **Suratu -
Kahf** a o daabo bo o kuro lođo Ad-Dajjaal ». Muslim l'o
gbe e jade.

2- Bakan naa fifi Qlohun Qba wa isadi kuro nibi
amiwo re leyin ataaya igbeyin "siwaju sisalama"
ninu gbogbo irun.

**ADUA TI O SE FUN ENI TI O BA SO FUN O
PE: [INNEE UHIBBUKA FEE -L-LAH] MO
FERAN RE NITORI OLOHUN**

« أَحَبُّكَ الَّذِي أَحَبَّنِي لَهُ ». [رواه ابو داود].

[AHABBAKA -L-LADZEE AHBABTANEE LAHU].

« Èni ti o tori Re nife mi yoo nife iwọ naa ». Abu-
Daa'ood l'o gbe e jade.

**ADUA TI O SE FUN ENI TI O BA KOJU OWO
RE SI O IPE KI O MU EYI TI O BA FE NINU
RE]**

« بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ». [رواه البخاري].

[BAARAKA -L-LAHU LAKA FEE AHLIKA WA MAALIK].

« Qlohun O ba o fi oore si ara ebi ati owo re ». Bukhari
l'o gbe e jade.

ADUA TI ENI TI O YA ENIYAN LOWO YOO
SE FUN ENI TI O YA LOWO NIGBA TI O BA
SAN AN

« بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَعْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا حِزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ
وَالْأَدَاءُ » . [رواه النسائي في العمل اليوم والليلة وابن ماجة].

[BAARAKA -L-LAHU LAKA FEE AHLIKA WA MAALIK,
INNAMAA JAZAA'U -S-SALAFI -L-HAMDU WA -L-ADAA'U].
« Olohun O ba o fi oore si ara ebi ati owo re, ohun ti
i se eesan gbese ni ope ati ki a san an pada ». An-Nasaa'i
ati Iba Maajah l'o gbe e jade.

ADUA IPAYA ISEBO SI OLOHUN "ASH-
SHIRK"

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا
لَا أَعْلَمُ » . [رواه احمد وغيره].

[ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BIKA AN USH'RIKA BIKA WA
ANA A'ALAM, WA ASTAGFIRUKA LIMAA LA A'ALAM].
« Iwo Olohun, mo sadi Re nibi pe ki n se ebọ si O
pelu mimo [ebọ naa lebo], mo si n toro aforijin lodọ
Re lori ohun ti n ko mo ». Ahmad ati awon miiran l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE FUN ENI TI O BA
SO FUN UN PE: [BAARAKA -L-LAHU FEEK]
OLOHUN O FUN O LALUBARIKA [OORE]

« وَفِيكَ بَارَكَ اللَّهُ » . [رواه ابن مسعود].

[WA FEEKA BAARAKA -L-LAH]

« Qlqhun O fun iwq naa lalubarika "oore" ». Ibn Sunni l'o gbe e jade.

**ADUA IKORIRA GBIGBA OHUN ASAN
LASAN KAN GBO PE O LE MU KI IBI O
SEYAN**

« اللَّهُمَّ لَا طَبْرَ إِلَّا طَبْرُكَ، وَلَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا إِلَهَ
غَيْرُكَ ». [رواه احمد وابن السني].

[ALLAHUMMA LAA TAIRA ILLA TAIRUK, WA LAA KHAIRA
ILLA KHAIRUK, WA LAA ILAAHA GAIRUK].

« Qlqhun kò si eyẹ kan yatq si eyẹ Rẹ, ati pe kò si
oore kan bi ko se oore Rẹ, beẹ ni kò si oḅa kan ti o to
lati fi ododo jòsin fun yatq si Q ». Ahmad ati Ibn Sunni l'o
gbe e jade.

ADUA AFIGUN OHUN GUNGUN

« بِسْمِ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا
لَهُ مُقْرِنِينَ . وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ « الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ
لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، سُبْحَانَكَ
اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا
أَنْتَ ». [رواه ابو داود والترمذي].

[BISMI -L-LAH, AL-HAMDU LI-L-LAH "SUBHAANA -L-
LADZEE SA-KH-KHARA LANAA HAADZAA WA MAA

KUNNA LAHU MUQRINEEN* WA INNA ILAA RABBINAA LAMUNQALIBUUN* AL-HAMDU LI-L-LAH, AL-HAMDU LI-L-LAH, AL-HAMDU LI-L-LAH, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, SUBHAANAKA -L-LAHUMMA INNEE DZALAMTU NAFSEE FAGFIR LEE, FA INNAHU LAA YAGFIRU -D-DZUNUUBA ILLA ANTJ.

« Ni oruko Qlqhun, ope ni fun Qlqhun Qba, "Mimq ni fun Eni ti O te eleyii lori ba fun wa, ati pe awa ko ni agbara lati tika ara wa te e lori ba. Dajudaju odo Oluwa wa ni ibupadasi wa". Ope ni fun Qlqhun Qba, ope ni fun Qlqhun Qba, ope ni fun Qlqhun Qba, Qlqhun l'O tobi ju, Qlqhun l'O tobi ju, Qlqhun l'O tobi ju, mimq ni fun Q, Iwo Qlqhun, mo se abosi fun ori ara mi dari jin mi, nitori pe ko si enikan ti i dari ese eni jin ni yatq si Q ». Abu-Daa'uud at Tirmidziyyu l'o gbe e jnde.

ADUA IRIN-AJO

« **اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ . وَإِلَىٰ إِلَهِنَا لَمُنْقَلِبُونَ﴾ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالْتَقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ**

مِنْ وَعْنَاءِ السَّمْرِ، وَكَاتِبَةِ الْمُنْظَرِ، وَسُوءِ الْمُتَقَلِّبِ فِي الْعَالِ
وَالْأَهْلِ».

[ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR,
"SUBHAANA -L-LADZEE SA-KH-KHARA LANAA HAADZAA
WA MAA KUNNA LAHU MUQRINEEN* WA INNA ILAA
RABBINAA LAMUNQALIBUUN" ALLAHUMMA INNA
NAS'ALUKA FEE SAFARINAA HAADZAA -L-BIRRA WA -T-
TAQWAA, WA MINA -L-AMALI MAA TARDHAA,
ALLAHUMMA HAWWIN ALAINAA SAFARANAA HAADZAA
WA -T-WI ANNA BU'UDAH, ALLAHUMMA ANTA -S-
SAAHIBU FEE -S-SAFAR, WA -L-KHALEEFATU FEE -L-AHL,
ALLAHUMMA INNEE AUUDZU BIKA MIN WA'ATHAA'I -S-
SAFAR, WA KA'AABATI -L-MANDZAR, WA SUU'I
MUNQALABI FEE -L-MAALI WA -L-AHL].

« Qlqhun l'O tobi ju, Qlqhun l'O tobi ju, Qlqhun l'O
tobi ju, "Mimq ni fun Eni ti O te eleyii lori ba fun
wa, ati pe awa ko ni agbara lati tika ara wa te e lori
ba. Dajudaju qdq Oluwa wa ni ibupadasi wa". Iwo
Qlqhun, a n torq lodq Re pe ki O fun wa ni daadaa
ati ipaya Re se lori irin-ajo wa yii, ki O si fun wa ni
ise ti O yonu si se, Iwo Qlqhun, se irin-ajo wa yii ni
irorun fun wa, si ba ni ka jijinna re ko, Qlqhun, Iwo
l'O N be pelu wa lori irin-ajo yii, Iwo Naa si ni
Oluwole de ni lori awon ebi wa, Iwo Qlqhun, mo n fi
Q wa isadi nibi isoro irin-ajo yii, ati nibi riri ohun ti

riri rẹ a maa ba ni lọkan jẹ, ati nibi apadasi-ibu lara nkan-ini mi ati ẹbi mi ».

Nigba ti o ba n dari lati irin-ajo rẹ, o tun wi iru awọn gbolohun t'ọ siwaju wọnyi pẹlu afikun yii:

« آيِبُون، تَائِبُون، عَابِدُون، لِرَبِّنَا حَامِدُون » . [رواه مسلم].

[AAYIBUUN, TAA'IBUUN, AABIDUUN, LIRABBINAA HAAMIDUUN].

« A pada de, a n ronupiwada lọ si ọdọ Ọlọhun, a n jọsin fun Ọlọhun, a si n fi ọpẹ fun Oluwa wa nikan».
Muslim l'ọ gbe e jade.

ADUA ATIWO ILETO TABI ILU NLA

« اللَّهُمَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبُّ الْأَرْضِينَ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبُّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَلْنَ، وَرَبُّ الرِّيَّاحِ وَمَا ذَرَّتْ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا » . [رواه الحاكم وابن مسعود].

[ALLAHUMMA RABBA -S-SAMAAWAATI -S-SAB'I WA MAA ADZLALNA, WA RABBA -L-ARADHEENA -S-SAB'I WA MAA AQLALNA, WA RABBA -SH-SHAYAATEENI WA MAA ADHLALNA, WA RABBA -R-RIYAAHI WA MAA DZARAINA, AS'ALUKA KHAIRA HAADZIHI -L-QARYATI WA KHAIRA AHLIHAA, WA KHAIRA MAA FIHAA, WA AUUDZU BIKA MIN SHARRIHAA, WA SHARRI AH'LIHAA WA SHARRI MAA FEEHAA].

« Iwọ Qlọhun, Oluwa awọn sanma mejeeje ati ohun ti wọn jẹ aja fun, Oluwa awọn ilẹ mejeeje ati ohun ti wọn gbe duro, Oluwa awọn esu ati ohun ti wọn n si lona, Oluwa atẹgun ati ohun ti n gbe danu, mo n tọrọ oore ileto yii lọdọ Rẹ, ati oore awọn ara ibẹ, ati oore ohun ti n bẹ ninu rẹ, mo si n fi Q wa isadi nibi aburu rẹ, ati aburu awọn ara ibẹ, ati aburu ohun ti n bẹ ninu rẹ ». Al-Haakim ati Ibn Sunni l'o gbe e jade.

ADUA ATIWỌ QJA

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » . [رواه ترمذی والحاکم]

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH, LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMD, YUHYEE WA YUMEETU WA HUWA HAYYUN LAA YAMUUT, BIYADIHI -L-KHAIR, WA HUWA ALAA KULLI SHAIN IN QADEER].

« Kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Qlọhun nikan soso, kò si orogun fun Un, Oun l'O ni akoso ati ọpẹ, Oun ni N mu ni sẹmi, bẹẹ ni Oun naa ni I pa ni, ati pe Oun ni Alaaye ti kò ni I ku rara, ọwọ Rẹ ni gbogbo oore wa, Oun si ni Alagbara lori gbogbo nnkan ». Al-Tirmidziyyu ati Al-Haakim l'o gbe e jade.

**ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA
RE OHUN TI O GUN**

« بِسْمِ اللَّهِ ». [رود ابو داود].

[BISMI -L-LAH]

« Ni oruko Qlohun Qba ». Abu-Daa'uid i'o gbe e jade.

**ADUA TI ONIRIN-AJO O SE FUN AWON TI
YOO FI SILE**

« أَسْتَوْدِعُكُمْ اللَّهَ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَذَائِعُهُ ». [رود احمد وابن ماجه].

[ASTAWDI'UKUMU -L-LAHA -L-LADZEE LA A TADHEE'U
WADAA'IUHU].

« Mo fi Qlohun Qba so yin, Eni ti awon ohun afunso
Re ki i sonu ». Ahmad ati Ibn Majah i'o gbe e jade.

**ADUA TI ENI TI N BE NILE O SE FUN
ONIRIN-AJO**

« أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ ». [رود
احمد وترمذی].

[ASTAWDI'U -L-LAHA DEENAK, WA AMAANATAK, WA
KHAWAATEEMA AMALIK].

« Mo fi Qlohun Qba so esin re ati ifokantan-ni re ati
asegbeyin ise re ». Ahmad ati At-Tirmidziyyu i'o gbe e jade.

« زُوِدَكَ اللَّهُ الثَّقَوِيَّ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ، وَهَسَرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ
مَا كُنْتَ ». [رود ترمذی].

[ZAWWADAKA -L-LAHU -T-TAQWAA, WA GAFARA
DZANBAK, WA YASSARA LAKA -L-KHAIRA HAITHU MAA
KUNT].

« Qlōhun O pese ipaya [Rẹ] fun ọ, yoo si dari ẹsẹ rẹ
jin ọ, yoo wa se oore ni irorun fun ọ ni ibikibi ti o ba
WA ». Al-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

GBIGBE OLOHUN TOBI ATI SISE AFOMO FUN UN LORI IRIN-AJO

Jaabir Ibn Abdullah "ki Qlōhun O yonu si i" sọ
pe:

« كُنَّا إِذَا صَعَدْنَا كَبْرَتَنَا، وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا ».

« Awa a maa gbe Qlōhun tobi; -ALLAHU AKBAR-,
nigba ti a ba n gunke, a si maa se afomo fun Qlōhun
-SUBHAANA -L-LAH-, nigba ti a ba n sọ kalẹ -lati aye
giga- ». Bukhari l'o gbe e jade.

ADUA ONIRIN-AJO NI KUTU-IDAJI

« سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ، وَحُسْنِ بَلَايَةِ عَلِيٍّ، رَبَّنَا صَاحِبَنَا،
وَأَفْضَلُ عَلَيْنَا عَائِدًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ». [رواه مسلم]

[SAMMA'A SAAMIUN BI HAMDİ -L-LAH, WA HUSNI
BALAAIHI ALAINAA. RABBANAA SAAHIBNAA, WA AFDHIL
ALAINAA AA'IDZAN BI -L-LAHI MINA -N-NAAR].

« Ki ẹni ti o ba gbọ ọpẹ mi ti mo da fun Qlōhun ati
ohun ti mo wi nipa ẹbun -aponle- rere ti O se fun wa
o sọ ọ fun ẹni ti kò gbọ ọ, Oluwa dakun pẹlu wa, ki

O si se alekun oore Rẹ fun wa, mo n fi Ọlọhun wa isọ nibi ina ». Muslim l'o gbe e jade.

**ADUA TI ENIYAN O SE NIGBA TI O BA SO SI
AYE KAN LORI AJO TABI NNKAN MIIRAN**

« أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ». [رواه مسلم].

[AUUDZU BI-KALIMAATI -L-LAHI -T-TAMMAATI MIN SHARRI
MAA KHALAQ].

« Mo n fi awọn gbolohun Ọlọhun ti wọn pe wa isadi
nibi aburu ohun ti O da ». Muslim l'o gbe e jade.

IRANTI |AL-DZIKR | PIPADA LATI IRIN-AJO

Yoo maa gbe Ọlọhun tobi -ALLAHU AKBAR-
ięęmęta, ni gbogbo igba ti o ba wa lori aye giga,
leyin naa ni yoo wa sọ pe:

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَهُوَ الْحَمْدُ،
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، أَيُّبُونُ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، لِرَبِّنَا
حَامِدُونَ، صَادِقَ اللَّهِ وَعَدَّهُ، وَتَصَرَّعْتَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ
وَحْدَهُ ». [بقره].

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH,
LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMD, WA HUWA ALAA KULLI
SHAIN IN QADEER, AAYIBUUN, TAA'IBUUN, AABIDUUN, LI-
RABBINAA HAAMIDUUN, SADAQA -L-LAHU WA'ADAH, WA
NASARA ABDAAH, WA HAZAMA -L-AHZAABA WAHDAH].

« Kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Ọlọhun Ọba nikan soso, kò si orogun fun Un, Oun l'O ni akoso ati ọpẹ, Oun si ni Alagbara lori gbogbo nnkan, a pada de, a n ronupiwada lọ si ọdọ Ọlọhun, a si n jọsin fun Ọlọhun, a si n fi ọpẹ fun Oluwa wa nikan, Ọlọhun mu adehun Rẹ sẹ, O si se aranse fun ẹru Rẹ, O si sẹgun awọn ijọ alaigbagbọ l'Oun nikan SOSO ». Bakhari ati Muslim l'o gbe e jade.

OHUN TI ENI TI NNKAN IDUNNU TABI TI NNKAN TI KO FE BA DE SI YOO WI

« كان النبي ﷺ إذا أتاه الأمر يسره قال: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ »، وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: « الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ». [رواه ابن مسعود والبخاري.]

Ojise Ọlọhun "ikẹ ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a" a maa wi pe:

[AL-HAMDU LI-L-LAHI -L-LADZEE BINI'IMATIHI TATIMMU -S-SAALIHAAT]

« Ọpẹ ni fun Ọlọhun Ọba ti O se wi pe pẹlu idẹra Rẹ ni awọn daadaa fi maa n pe »; nigba ti ohun ti o dun un ninu ba sẹlẹ si i. Ati pe nigba ti ohun ti kò fẹ ba sẹlẹ si i a maa sọ pe:

[AL-HAMDU LI -L-LAHI ALAA KULLI HAAL].

« Ọpẹ ni fun Ọlọhun Ọba lori gbogbo ipo [ti eniyan ba ba ara rẹ] ». Ibn Sunni ati Al-Hakim l'o gbe e jade.

**OLA TI N BE FUN SISE ASALATU [ITTORO
IKE ATI IGE] FUN ANABI WA IKE ATI OLA
OLOHUN K'O MAA BA A**

1- Ojise Qlohun "ki ike ati o la Qlohun o maa ba a"
so pe:

« من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً » . [رواه مسلم].

« Enikeni t'o ba se asalatu kan fun mi Qlohun Oba
yoo tori re se asalatu mewa fun un ». Muslim l'o gbe e jade.

2- Ojise Qlohun "ike ati o la Qlohun k'o maa ba a"
tun so pe:

« لا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث
كنتم » . [رواه احمد وابو داود].

« E ko gbodo so saare mi di ohun ti e o maa se odun
fun, e si maa se asalatu fun mi, nitori pe dajudaju
asalatu yin yoo maa de odo mi lati ibikibi ti e ba
Wa ». Ahmad ati Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

3- Ojise Qlohun "ike ati o la Qlohun k'o maa ba a"
tun so pe:

« البحيل من ذكرت عنده فلم يصل علي » . [رواه ترمذي].

« Eni ti won daruko mi lodo re ti ko se asalatu fun
mi ni ahun ». At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

4- Ojise Qlohun "ike ati o la Qlohun k'o maa ba a"
tun so pe:

« إن الله ملائكة سيّاحين في الأرض يلقونسي من أمّني
السلام. » [رواه مسلم والبخاري].

« Dajudaju Qlòhun Qba ni awon Malaika arinkaye
kan lori ile ti won o maa jise kiki "salama" ti awon
ijo mi ba n ki mi fun mi ». An-Nasaa'i ati Al-Hakim l'o gbe e
jade.

5- Ojise Qlòhun "ike ati ola Qlòhun k'o maa ba a"
tun so pe:

« ما من أحد يسلم عليّ إلا ردّ الله عليّ روحي حتى أردّ عليه
السلام. » [رواه ابو داود].

« Enikan kò ni i salama si mi afi ki Qlòhun O da emi
mi pada fun mi titi ti n o fi dahun kiki ti o ki mi ».
Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

TITAN SALAMA' / KIKI ARA ENI NI TI OLA

KA

1- Ojise Qlòhun "ki ike ati ola Qlòhun o maa ba a"
so pe:

« لَا تَدْخُلُوا الْحَيَّةَ حَتَّى تَوْمِنُوا، وَلَا تَوْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا، أَوْ لَا
أَدْلِكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابْتُمْ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. »
رواه مسلم.

« E kò ni i wọ Al-Janna -ogba idera- titi ti e o fi ni
igbagbo-ododo, ati pe e kò ni i ni igbagbo-ododo titi
ti e o fi fẹran ara yin, nje e o yoo wa je ki n toka si

nrkan kan fun yin ti o se wi pe ti e ba se e e o nife ara yin bi?; e maa tan salama "kiki ara eni ni ti o la" ka laarin yin ». Muslim l'o gbe e jade.

2- Ojise Qlohun "ike ati o la Qlohun k'o maa ba a" so pe:

« ثَلَاثٌ مِنْ جَمْعِهِنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ: الْإِنصَافُ مِنْ نَفْسِكَ، وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالَمِ، وَالْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ ». *رواه البخاري*

« Enikeni ti o ba ri nrkan meta kan kojọ dajudaju oluwaare ti ri igbagbo-ododo kojọ: Sise dogba fun awon eniyan lori ara re -ki o maa fun eni ti o ba leto kan lodọ re ni eto re peerepe-, titan salama ka fun awon araye, nina owo t'ohun ti aiko fe na an ». Bukhari l'o gbe e jade.

3- Egbawa-orọ yii wa lati odọ Abdullahi Ibn Umar "Qlohun Oba k'O yonu si awon mejeeji" o ni: Okunrin kan bi Anabi "ki ike ati o la Qlohun o maa ba a" leere pe: Islam wo l'o loore ju?; Ojise Qlohun si da a lohun pe:

« تَطْعَمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَيَّ مِنْ عَرَفَتِ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ ». *متفق عليه*

« Ki o maa fun [awon eniyan] ni ounje je, ki o si maa salama si eni ti o mo ati eni ti o ko mo ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

BLA O TI DA ALAIGBAGBO [KEFERI]
LOHUN NIGBA TI O BA SALAMA SI WA

Ojise Ọlọhun "ikẹ ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a" ni:

« إذا سلم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وَعَلَيْكُمْ ». عزه.

« Ti awon oni-tira "awon Yahudi tabi awon Nasaara -awon alagbelebu-" ba salama si yin e da won lohun pe: [WA ALAIKUM] ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TIA O SE NIGBA TI AKUKO BA KO,
ATI NIGBA TI KETEKETE BA KE

Ojise Ọlọhun "ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a" so pe:

« إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم لميق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان؛ فإنه رأى شيطانا ». عزه.

« Nigba ti e ba gbọ kikọ awon akuko e maa toro loḍo Ọlọhun pe k'O fun yin ninu oore Re, nitori pe dajudaju Malaika kan ni won ri; nigba ti e ba si gbọ igbe ketekete e maa fi Ọlọhun wa isadi kuro ni oḍo esu, nitori pe dajudaju esu kan ni o ri ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

ADUA TIA O SE NIGBA TIA BA GBQ
GBIGBO AJA LORU

Ojise Ọlọhun "ki ike ati ọla Ọlọhun o maa ba a" sọ pe:

« إذا سمعتم نباح الكلاب ونحيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله
منهن، فإنهن برين ما لا ترون ». روه أبو داود.

« Nigba ti ẹ ba gbọ gbigbo awọn aja ati kike awọn
ketekete ni oru, ẹ maa fi Ọlọhun wa isadi kuro ni
ọdọ wọn, nitori pe dajudaju awọn n ri ohun ti ẹyin ki
i ti ». Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

ADUA TIO SE FUN ENI TI O BA BU

Ojise Ọlọhun "ki ike ati ọla Ọlọhun o maa ba a" sọ pe:

« اللَّهُمَّ فَإِنَّمَا مُؤْمِنٌ سَبَبُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ». [سنن علي].

[ALLAHUMMA FA-AYYUMAA MU'UMININ SABABTUHU FA-J-
AL DZAALIKA LAHU QURBATAN ILLAIKA YAWMA L-
QIYAAMAH].

« Iwo Ọlọhun! gbogbo olugbagbo-ododo ti mo bu ri
je ki eebu naa o je ohun ti yoo mu un sun mo O ni
ojo igbende ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

OHUN TI MUSULUMI YOO WI NIGBA TI
YOO BA YIN MUSULUMI EGBE RE

Ojise Ọlọhun "ike ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a" sọ pe:

« إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لآ محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيه ولآ أزكي على الله أحدا أحسبه - إن كان يعلم ذلك - كذا وكذا ». [رواه مسلم].

« Ti ẹnikan yin ba ri wi pe kò si ibuyesi kan fun oun lati ma yin ẹlẹgbẹ oun ki oluwaare ọ sọ bayii pe: Mo lero wi pe bayii bayii ni lagbaja ri, Ọlọhun ni yoo se isiro ise fun un, ati pe n kò fọ ẹnikan mo ni iwaju Ọlọhun ». Muslim l'o gbe e jade.

OHUN TI MUSULUMI YOO SO NIGBA TI
WON BA FO O MO [TI WON BA YIN IN]

« اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا يَقُولُونَ، وَأَعْفِرْ لِي مَا لَا يَعْلَمُونَ،
وَاجْعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ ». [رواه البخاري في الأدب المفرد والسنن].

[ALLAHUMMA LAA TU'AAKHIDZNEE BI MAA YAQUULUUN,
WA G'FIR LEE MAA LAA YA'ALAMUUN, WA 'J'ALNEE
KHAIRAN MIMMAA YADZUNNUUN].

« Ọlọhun, dakun ma se fi ohun ti won n wi je mi niya, si se aforijin fun mi lori ohun ti won kò mo "nipa mi", ki O si je ki n dara ju bi won ti n lero lo ».

Bukhari l'o gbe e jade ninu Al-Adabu-l-Mufrad ati Baihaqiyyu

BAWO NI ENI TI O GBE HARAMI FUN HAJI
TABI UMURA YOO TI MAA WI GBOLOHUN
IJEPE [TELBIYYAH]

« كَيْتَكَ اللَّهُمَّ كَيْتَكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ كَيْتَكَ، إِنَّ الْحَمْدَ، وَالنِّعْمَةَ
لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ ». [متروكاً].

[LABBAIKA -L-LAHUMMA LABBAIK, LAA SHAREEKA LAKA
LABBAIK, INNA -L-HAMDA WA -N-NI'MATA LAKA WA -L-
MULK, LAA SHAREEKA LAK].

« Mo jepe Re leyin jijepe Re Iwo Olohun, mo jepe
Re leyin jijepe Re, ko si orogun fun O mo jepe Re,
dajudaju Iwo l'O ni gbogbo eyin ati gbogbo idera ati
gbogbo akoso, ko si orogun kan fun O » Bukhari ati
Muslimi l'o gbe e jade.

GBIGBE OLOHUN TOBI -ALLAHU AKBAR-
NIGBA TI O BA DE IBI AL-HAJARU-L-
ASWAD [OKUTA DUDU].

« طاف النبي ﷺ بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه
بشيء عنده وكبر ». [رواه البخاري].

« Anabi wa "ike ati o la Olohun k'o maa ba a" se
irokirika ile Oluwa -Tawaaf- lori rakunmi kan, ni
gbogbo igba ti o ba de origun ti okuta dudu -Al-
Hajaru-l-Aswad- wa o maa n toka si i pelu nnkan
kan -popa abori-koroyi- ti n be lodore, yoo si so pe:
ALLAHU AKBAR ». Bukhari l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO MAA SE LAARIN
ORIGUN YAMAANI ATI TI OKUTA DUDU
[AL-HAJARU-L-ASWAD]

« رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ». [روه احمد و ابو داود]

[RABBANAA AATINAA FEE -D-DUNIYAA HASANATAN WA
FEE -L-AAKHIRATI HASANATAN WA QINAA ADZAABA -N-
NAAR].

« Oluwa wa, fun wa ni daadaa ni ile-aye, si fun wa ni
daadaa ni ile-igbeyin, wa so wa nibi iya ina ». Ahmad
ati Abu-Daa'uud l'o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI O BA
DURO LORI SAFA ATI MARWA

« لما دنا ﷻ من الصفا قرأ ﴿ إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَابِرِ
اللَّهِ ﴾ أَبَدًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ؛ فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى
البيت فاستقبل القبلة، فوحده الله وكره وقال: « لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَحْزَرَ وَعَدَّهُ، وَتَصَرَّ عَيْدَهُ، وَهَزَمَ
الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ». ثم دعا بين ذلك؛ قال مثل هذا ثلاث

مدرات « الحديث. وفيه « ففعل على المرأة كما فعل على
الصفا ».

« Nigba ti Anabi wa "ki ikę ati ęla ęlęhun o maa ba
a" sun mę oke Safa o ka:

[INNA -S-SAFĀ WA -L-MARWATA MIN SHA'ĀĪRI -L-LĀH]

"Dajudaju Safa ati Marwa n bę ninu awęn aye ijęsin
fun ęlęhun ti O sami si fun awęn eniyan".

[ABĀU BI MĀA BĀDA'A ALLĀHU BIHI].

"N o bęreę ęelu ohun ti ęlęhun fi bęreę". O si bęreę
ęelu Safa, o gun ori reę titi o fi ri ile ęlęhun, o si da
uju kę Kaaba, o si se ęlęhun laaso, o si gbe E ga, o
si sę pe:

[LĀA ILĀĀHA ILLĀL-LĀHU WAHDĀHU LĀA SHAREEKA LAH,
LAHU -L-MULKU WA LAHU -L-HAMD, WA HUWA ALĀA KULLI
SHĀIN IN QĀDEER, LĀA ILĀĀHA ILLĀ -L-LĀHU WAHDĀH,
ANJĀZA WĀ'ĀDAH, WĀ NASĀRA ABĀDAH, WĀ HĀZĀMA -L-
ĀHZĀĀBA WAHDĀH]

"Kọ si ęba kan ti o tę lati fi ododo jęsin fun yatę si
ęlęhun nikan soso, kọ si orogun fun Un, Oun l'O ni
gbogbo akoso ati ępeę, Oun si ni Alagbara lori
gbogbo nnkan, kọ si ęba kan ti o tę lati fi ododo
jęsin fun yatę si ęlęhun nikan soso, O pe adehun
Reę, O si se atileyin fun eru Reę, O si sęgun awęn ijo
alaigbagbo l'Oun nikan soso"; o si sadua leyin eleyii,
o se bayii leęmeęta -ęelu sise adua laarin węn-; o wa
ninu eębawa-ęreę yii kan naa wi pe: "Ojiseę ęlęhun

tun se gęęę bi o ti se ni ori okuta Safa yii lori okuta
Marwa »). Muslim l'o gbe e jade.

ADUA OJO ARAFA

Anabi "ikęę ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a" sọ pe:

« حَسْبُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قَلَّتْ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ
قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »). [ردہ المردی].

« Eyi ti o loore ju ninu adua ni adua ojo Arafa, ati pe
ohun ti o loore ju ti emi ati awọn anabi ti wọn siwaju
mi wi "ni ojo yii" ni:

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH,
LAHU -L- MULKU WA LAHU -L-HAMD, WA HUWA ALAA KULLI
SHAIN IN QADEER]

"Kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si
Ọlọhun nikan soso, kò si orogun fun Un, Oun l'O ni
gbogbo akoso ati ọpe, Oun si ni Alagbara lori
gbogbo nnkan"»). Al-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

SISE IRANTI OLOHUN NI AL-MASH'ARU-L- HARAAM [NI MUZDALIFAH]

« رَكِبَ ٱلْقَصْوَاءَ حَتَّىٰ أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ
فَدَعَا، وَكَبَّرَ، وَهَلَّلَهُ، وَوَحَّدَهُ، فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّىٰ أُسْفِرَ
جَدَا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ ». [ردہ سلم].

« Ojise Ọlọhun "ike ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a" gun Al-qaswaa -rakunmi re-, "lati Arafa" titi o fi de Al-Mash'aru-l-Haram "ni Muzdalifah", o si d'aju ko Al-qibla "iha Kaaba", "O si bere si pe Ọlọhun, o si n se agbega Re -ALLAHU AKBAR-, o si n wi gbolohun pe ko si ọba kan ti o to lati fi ododo josin fun yatọ si I -LAA ILAAHA ILLA -L-LAH-, o si n se E laaso", ko si yee be ni iduro titi ti ile fi mo kedere, o si gbera kuro nibe siwaju ki oorun o too yo ». Muslim l'o gbe e jade.

**WIWI GBOLOHUN ALLAHU AKBAR NIGBA
TI A B A N S O O K O K O O K A N N I
I B U S O L O K O [N I M I N A]**

Anabi wa "ike ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a"
 « يَكْبِرُ كَلِمًا رَمَى بِحِصَاةٍ عِنْدَ الْجَمَارِ الثَّلَاثِ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ، وَيَقِفُ
 يَدْعُو مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، رَافِعًا يَدَيْهِ بَعْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةَ. أَمَّا
 جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا وَيَكْبِرُ عِنْدَ كُلِّ حِصَاةٍ وَيَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ
 عِنْدَهَا ». [بخاري]

« A maa wi pe: "ALLAHU AKBAR" ni gbogbo igba ti o ba n so oko kookan ni awon ibusoloko meteta, nigba ti o ba pari oko sisọ ti ibusoloko alakoko "ti i se aye isoko kekere" ati elekeji "ti aarin" a maa rin siwaju -di- leyin okookan won, yoo si duro se adua. pelu kikoju si Al-qibla "iha Kaaba", yoo si gbe ọwo re mejejeji soke, sugbon nigba ti o ba de ibusoloko

ẹlẹkẹta ti a mọ si Aqaba “ninla” nse ni i maa n sọ ọ loko pẹlu wiwi gbolohun “ALLAHU AKBAR” pẹlu oko kọọkan, yoo si pẹyinda lai kò duro nibẹ lati se adua». Bukhari ati Muslim l’o gbe e jade.

ADUA TI ENIYAN YOO SE NIGBA TI NNKAN KAN BA YA A LENU, TABI O DUN UN NINU

١- «مُتَحَانَ اللَّهُ». [متزعة].

[SUBHAANA -L-LAH].

« Mimọ ni fun Ọlọhun Ọba ». Bukhari ati Muslim l’o gbe e jade.

٢- «اللَّهُ أَكْبَرُ». [رواه البخاري].

[ALLAHU AKBAR].

« Ọlọhun l’O tobi ju ». Bukhari l’o gbe e jade.

OHUN TI ENI TI NNKAN IDUNNU BA SELE SI YOO SE

« كان النبي ﷺ إذا أتاه أمر يسره أو يسره به خر ساجداً شكراً لله تبارك وتعالى ». [رواه لعن السنن الأربعة].

« Anabi wa “ikẹ ati ọla Ọlọhun k’o maa ba a” a maa f’ori bale ni ti idupe fun Ọlọhun Ọba ibukun ati giga nigba ti nnkan ti n dun un ninu tabi ohun ti n dunnu si ba sẹlẹ si i ». Awọn Oni-tira Sunna l’o gbe e jade yatọ si An-Nasaa’i.

OHUN TI ENI TI N JE IRORA YOO WI

Anabi wa “ikẹ ati ọla Ọlọhun k’o maa ba a” sọ pe:

« صَعَّ يَدُكَ عَلَى الَّذِي تَأْمَنُ مِنْ جَسَدِكَ وَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ ثَلَاثًا،
 وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَحَدٌ وَأَحَادِرٌ ».
 [رواه سلیمان]

« Fi ɔwɔ rɛ le ibi ti n dun ɔ lara rɛ, ki o wa sɔ pe:
 [BISMI -L-LAH] lɛmɛta, ki o si wi [awɔn gbolohun ti n
 bɔ yii] lɛmeje:
 [AUUDZU BI -L-LAHI WA QUDRATIHI MIN SHARRI MAA
 AJIDU WA UHAADZIR]

“Mo n fi Ọlọhun Ọba ati agbara Rẹ wa isadi nibi
 aburu ohun ti n se mi ati eyi ti mo n paya” ». Muslim l’o
 gbe e jade.

**ADUA TI ENI TI N BERU KI OUN O MA FI
 OJU OUN BA NNKAN KAN JE YOO SE**

Ojisẹ Ọlọhun “ikẹ ati ọla Ọlọhun k’o maa ba
 a” sọ pe:

« إِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ مِنْ أَحِبِّهِ، أَوْ مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا
 يَعْجَبُهُ [فليدع له بالبركة] فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ » . [رواه مسلم وأحمد وابن
 ماجه]

« Nigba ti ẹnikan ninu yin ba ri nnkan kan ti o jọ ọ
 loju lọdọ ọmọ-iyá rẹ, tabi ni ara rẹ, tabi lara owo rẹ,
 ki o sadua fun un pe ki Ọlọhun O ba a fi oore si i,
 nitori pe dajudaju ododo ni oju i se » . Malik ati Ahmad ati
 Ibn Maajah l’o gbe e jade

OHUN TI ENIYAN O MAA WI NI ASIKO
IJAYA

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ». [مترجم عليه].

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAH].

« Kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si Qlọhun Ọba ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

OHUN TI ENIYAN YOO WI NIGBA TI O BA
FE DURAN TABI YOO GUNRAN

« بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي ». [اردء
مسلم والسنن].

[BISMI -L-LAHI WA -L-LAHU AKBAR, ALLAHUMMA MINKA
WA LAKA, ALLAHUMMA TAQABBAL MINNEE].

« Mo berę ni orukọ Qlọhun, Qlọhun l'O tobi ju, Iwo Qlọhun, ọdọ Rę l'o ti wa, ati pe tiE ni i se, Iwo Qlọhun gba a "leşin" fun mi ». Muslim ati Al-Baihaqiyu l'o gbe e jade.

OHUN TI ENIYAN YOO WI LATI TI ETE
AWON ESU ALAGBERE DANU

« أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُحَارِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ
شَرِّ مَا خَلَقَ، وَبَرٍّ وَذَرٍّ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، وَمِنْ
شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ، وَمِنْ شَرِّ مَا

يَخْرُجُ مِنْهَا، وَمِنْ شَرِّ قَتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَّارِقٍ
يَطْرُقُ إِلَّا طَّارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ». [رواه أحمد].

[AUUDZU BI-KALIMAATI -L-LAHI -T-TAAMMAATI -L-LATEE
LAA YUJAAWIZUHUNNA BARRU WA LAA FAAJIRUN MIN
SHARRI MAA KHALAQA WA BARA'A WA DZARA'A, WA MIN
SHARRI MAA YANZILU MINA -S-SAMAA'I, WA MIN SHARRI
MAA YA'ARUJU FEEHAA, WA MIN SHARRI MAA DZARA'A
FEE -L-ARDH, WA SHARRI MAA YA'KH'RUJU MINHAA, WA
MIN SHARRI FITANI -L-LAILI WA -N-NAHAAR, WA MIN
SHARRI KULLI TAARIQIN YATRUQU ILLA TAARIQAN
YATRUQU BI KHAIRIN YAA RAHMAAN].

« Mo n fi awon gbolohun Ololohun ti won pe, awon ti
o se wi pe oluse-rere kan tabi elese kan ko lee tayo
won wa isadi nibi aburu ohun ti Ololohun da, ati awon
eranko ati awon aromodomomo ti O da, ati nibi aburu
ohun ti n so lati sanma, ati nibi aburu ohun ti n
gunke lo si inu sanma, ati nibi aburu ohun ti O da si
ori ile, ati nibi aburu ohun ti n jade ninu ile, ati nibi
aburu awon amiwo oru ati ti osan, ati nibi aburu
gbogbo ohun ti i maa n fi oru ja lu ni lojiji, yatso si
eyi ti yoo mu oore wa, mo n ke pe lwo Oba
Alaananu». Ahmad l'o gbe e jade.

ITORO AFORIJIN ATI IRONUPIWADA

1- Ojise Ololohun "ike ati ola Ololohun k'o maa ba a"
so pe:

« والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة ». [رواه البخاري].

« Mo fi Qlòhun bura pe emi a maa tɔrɔ aforijin lɔdɔ Qlòhun, mo si maa n se ironupiwada lɔ si ɔdɔ Rɛ ju igba aadorin lɔ ni ojumɔ kan ». Bukhari l'o gbe e jade.

2- Ojise Qlòhun "ikɛ ati ɔla Qlòhun k'o maa ba a" tun sɔ pe:

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ فَإِنِّي أَنُوبُ فِيهِ الْيَوْمَ إِلَيْهِ مِائَةٌ مَرَّةً ». [رواه مسلم].

« Eyin eniyan ɛ maa ronupiwada lɔ si ɔdɔ Qlòhun Qba, tori pe dajudaju emi gan-an alara a maa ronupiwada lɔ si ɔdɔ Rɛ ni igba ɔgɔrun ni ojumɔ kan ». Muslim l'o gbe e jade.

3- Ojise Qlòhun "ikɛ ati ɔla Qlòhun k'o maa ba a" tun sɔ pe:

« من قال: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فَرًّا مِنَ الزَّحْفِ ». [مرحله ابو داود وقرئني].

« Enikɛni t'o ba sɔ pe: [ASTAGFIRU -L-LAHA -L-ADZEEMA -L-LADZEE LAA ILAHA ILLA HUWA -L-HAYYA -L-QAYYUUMA WA ATUUBU ILAIHI]. Itumɔ: "Mo n tɔrɔ aforijin lɔdɔ Qlòhun Qba t'O tobi, Qba t'O se pe kò si ɔba miiran ti o tɔ lati fi ododo jɔsin fun yatɔ si I,

Qba Alaaaye Oludawa, mo si n ronupiwada lo si qoqo Re”.

Qlohun yoo se aforijin fun un, koda ki o se pe sisa ni o sa kuro ni oju-Ogun ». Abu-Daa'uud ati At-Tirmidziyyu l'o gbe e jade.

4- Ojise Qlohun “ike ati oia Qlohun k'o maa ba a” tun so pe:

« أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن ».

[رواه الترمذي والنسائي]

« Igba ti Oluwa Qba maa N sunmo eru Re ju ni ikayin aarin oru, tori naa ti o ba see se fun o lati je eni ti yoo maa se Al-dziki “iranti Qlohun Qba” ni asiko naa se be ». At-Tirmidziyyu ati An-Nasaa'i l'o gbe e jade.

5- Ojise Qlohun “ike ati oia Qlohun k'o maa ba a” tun so pe:

« أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثرُوا

الدعاء ». [رواه مسلم]

« Igba ti eru Qlohun maa n sunmo Oluwa re ju ni igba ti o ba fi'ori kanle, nitori naa e maa se opolopo adua “ninu iforikanle yin” ». Muslim l'o gbe e jade.

6- Ojise Qlohun “ike ati oia Qlohun k'o maa ba a” tun so pe:

« إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة ». [ردء
سلي]

« Dajudaju "igbagbe" a maa bo mi loḳan -ni
eḳkanlaare lati se iranti Oloḳhun-, ati pe dajudaju emi
a maa toṛo idarijin loḳo Oloḳhun ni igba oḡorun
lojoojumḡ ». Muslim l'o gbe e jade.

**OLA TIN BE FUN GBOLOHUN "SUBHAANA
-L-LAH" ATI "AL-HAMDU LI L-LAH" ATI
"LAA ILAHA ILLA -L-LAH" ATI "ALLAHU
AKBAR"**

1- Ojise Oloḳhun "ike ati oḳa Oloḳhun k'o maa ba a"
so pe:

« من قال: سُبحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ في يوم مائة مرة حطت
عصاياه ولو كانت مثل زبد البحر ». [معد عنه].

« Enikeḳni ti o ba so pe: "SUBHAANA -L-LAHI WA
BIHAMDIHI" ni igba oḡorun ni ojumo kan, Oloḳhun O
pa asise re re fun un, b'o fe ki o je pe awon asise naa
po bii ifoofoo ori omi okun ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e
jade.

2- Ojise Oloḳhun "ki ike ati oḳa Oloḳhun o maa ba a"
tun so pe:

« من قال: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَارٍ، كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ
أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلِ ». [سنن منه].

« Ènikèni ti o ba sọ pe: [LAA ILAHA ILLA -L-LAHU
WAHDHU LAA SHAREEKA LAH, LAHU -L-MULK, WA LAHU -
L-HAMD, WA HUWA ALAA KULLI SHAIN IN QADEER]
Iḡemewa, oluwaare yoo dabi eni ti o bọ okun eru
kuro ni orun merin ninu awon omọ Anabi Isma'eel».
Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

3- Ojise Ọlọhun "ikẹ ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a"
tun sọ pe:

« كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى
الرحمن: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ ». [سنن منه].

« Awon gbolohun meji ti o fuyẹ lori ahon, ti o si
wuwo lori osunwon, ti Ọlọhun Ọba Alaanu si nifẹ
si: [SUBHAANA -L-LAHI WA BI HAMDHI SUBHAANA -L-LAHI
-L-ADZEEM] ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

4- Ojise Ọlọhun "ikẹ ati ọla Ọlọhun k'o maa ba
a" tun sọ pe:

« لأن أقول: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ
أَكْبَرُ، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ». »

« Mo bura pe ki n maa wi pe: [SUBHAANA -L-LAH, WA -L-HAMDU LI-L-LAH, WA LAA ILAAHA ILLA -L-LAH, ALLAHU AKBAR] wu mi ju gbogbo ohun ti oorun ran le lori lq». Muslim l'o gbe e jade.

5- Ojise Ọlọhun "ike ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a" tun so pe:

« أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة » فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة ؟ قال: « يسبح مائة تسبيحة، فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة ». [رواه مسلم].

« Nje ẹnikan yin yoo wa kaare lati maa se ẹgbẹrun daadaa lojoojumọ bi? ». Ẹnikan ninu awọn ti wọn jokoo pẹlu rẹ si bi i leere pe: Bawo ni ẹnikan ninu wa yoo ti maa se ẹgbẹrun daadaa [lojoojumọ]?; Ojise Ọlọhun ni: « Ki o maa se afọmọ fun Ọlọhun Ọba [SUBHAANA-L-LAH] ni igba ọgọrun, ki a kọ ẹsan daadaa ẹgbẹrun fun un, tabi ki a pa asise ẹgbẹrun rẹ fun un ». Muslim l'o gbe e jade.

6- Ojise Ọlọhun "ike ati ọla Ọlọhun k'o maa ba a" so pe:

« من قال: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ؛ غُفِرَ لَهُ نَجْمَةٌ فِي الْحَبَّةِ ».

« Ènikèni ti o ba sọ pe: [SUBHAANA-L-LAHI -L-ADZEEMI WA BI HAMDHI] a o gbin igi dẹbiinu kan fun un sinu Al-Janna “ogba idẹra”». Al-Timidziyyu l’o gbe e jade.

7- Ojise Qlqhun “ike ati ọla Qlqhun k’o maa ba a” tun sọ pe:

« يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كَنْزِ
الْحَنَّةِ؟ »، فقلت: بلى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قال: « قل: لَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ». [سعد عنه].

« Iwo Abdullahi omo Qais, o yoo wa je ki n toka si pepe orọ kan ninu awon pepe orọ Al-Janna -ogba idera- fun o bi? ». Ni mo ba ni: Beẹ ni iwọ Ojise Qlqhun, o ni: Sọ pe:[LAA HAWLA WA LAA QUWWATA ILLA BI -L-LAH] ». Bukhari ati Muslim l’o gbe e jade.

8- Ojise Qlqhun “ike ati ọla Qlqhun k’o maa ba a” tun sọ pe:

« أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ؛ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ ». [رواه مسلم].

« Merin ni orọ ti Qlqhun nife si ju: [SUBHAANA -L-LAH. WA -L-HAMDU LI-L-LAH. WA LAA ILAHA ILLA -L-LAH. ALLAHU AKBAR], kò buru pe ki o berẹ pelu eyiyowu ti o ba fe ninu won ». Muslim l’o gbe e jade.

9- Ara-oko kan wa ba Ojise Qlqhun “ike ati ọla Qlqhun k’o maa ba a” o si sọ pe: Kọ mi ni orọ kan ti n o maa sọ; Ojise Qlqhun ni: « Maa sọ pe:

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ
 كَثِيرًا، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
 الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ » قال: فهولاء لربي فما لي ؟ قال: قل: « اللَّهُمَّ
 اغْفِرْ لِي، وَأَرْحَمْنِي، وَاهْدِنِي وَأَرْزُقْنِي ». [ردء سلما]

[LAA ILAAHA ILLA -L-LAHU WAHDAHU LAA SHAREEKA LAH,
 ALLAHU AKBAR KABEERAN, WA -L-HAMDU LI-L-LAHI
 KATHEERAN, SUBHAANA -L-LAHI RABBI -L-AALAMEEN, LAA
 HAWLA WA LAA QUWWATA ILLA BI -L-LAHI -L-AZEEZI -L-
 HAKEEM]

« Kò si ọba kan ti o tọ lati fi ododo jọsin fun yatọ si
 Ọlọhun nikan soso, kò si orogun kan fun Un, Ọlọhun
 Ọba l'O tobi ju ni titobi, ọpẹ ni fun Ọlọhun Ọba
 lọpọlọpọ, mimọ ni fun Ọlọhun Oluwa gbogbo ẹda,
 kò si ogbon kan, beẹ ni kò si agbara kan leyin
 Ọlọhun Alagbara Ọlọgbon ».

Oni-beere ni: Ti Oluwa ni gbogbo awon gbolohun
 wonyi i se, ewo ni temi?, Ojise Ọlọhun ni: « Maa sọ
 pe:

[ALLAHUMMA -G-FIR LEE, WA -R-HAMNEE, WA-H-DINEE, WA
 -R-ZUQNEE]

“Ọlọhun fi ori jin mi, ke mi, fi ọna mọ mi, rọ mi
 lọrọ” ». Muslim l'o gbe e jade

10- « Nigba ti ẹnikan ba gba ẹsin Islam, Ojise
 Ọlọhun “ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa be pelu re” a

maa kọ ọ ni irun kiki, lẹyin naa ni yoo wa pa a lase pe ki o maa se adua pẹlu awọn gbolohun wọnyi:

« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي.»

[ALLAHUMMA -G-FIR LEE, WA -R-HAMNEE, WA-H-DINEE, WA AAFINEE WA -R-ZUQNEE]

“Olọhun dari jin mi, kẹ mi, fi ọna mọ mi, fun mi ni alaafia, rọ mi lọrọ” ». Muslim l’o gbe e jade

11- Ojise Ọlọhun “ki ikẹ ati ọla Ọlọhun o maa ba a” sọ pe:

« إن أفضل الدعاء: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وأفضل الذكر: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. [رواه الترمذي وابن ماجه].

« Dajudaju eyi ti o lọla ju ninu adua ni: [AL-HAMDU LI-L-LAH] -ti o tumọ si pe-: “Gbogbo ọpẹ ti Ọlọhun Ọba ni i se”. Eyi ti o si lọla ju ninu iranti “Al-dziki” ni: [LAA ILAAHA ILLA -L-LAH] -itumọ-: “Kò si ọba kan ti o tọ lati jọsin fun lododo yatọ si Ọlọhun Ọba” ». Al-Tirmidziyyu ati Ibn Maajah l’o gbe e jade

12- Ojise Ọlọhun “ikẹ ati ọla Ọlọhun k’o maa ba a” sọ pe:

« السابقَات الصالحات: سبحان الله، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.» [رواه أحمد].

« Awọn daadaa ti wọn maa n sẹku [fun eniyan] ni: [SUBHAANA -L-LAH, WA -L-HAMDU LI-L-LAH, WA LAA ILAAHA ILLA -L-LAH, WA -L-LAHU AKBAR, WA LAA HAWLA

WA LAA QUWWATA ILLA BI-L-LAH] “Mimọ ni fun Qlọhun Qba, ati pe kò si qba kan t’o tọ lati sin lododo afi Qlọhun Qba, ati pe Qlọhun Qba l’O tobi ju, beẹ ni kò si qgbọn kan kò si si agbara kan leyin Qlọhun ». Ahmad l’o gbe e jade.

**BAWO NI ANABI WA IKE ATI OLA QLOHUN
K’O MAA BA A TI I MAA N SE TESBEEH –
AFOMO-**

Egbawa-ọrọ yii wa lati ọdọ Abdullahi Ibn Amr, “ki Qlọhun O yọnu si awọn mejeeji”, o ni:

« رأيت النبي ﷺ يعقد التسبيح بيمينه ». [رواه أبو هريرة والترمذي].

« Mo ri Anabi “ikẹ ati ọla Qlọhun k’o maa ba a” ti n fi awọn koko awọn ọmọ-ika ọwọ rẹ ọtun ka [gbolohun] afọmọ “Al-Tesbeeh” ti n se ». Abu-Daa’uud ati Al-Tirmidziyyu l’o gbe e jade.

**APA KAN NINU AWON OLOKAN-O-JOKAN
OORE ATI AWON EKỌ TI O KARI**

Ojise Qlọhun “ikẹ ati ọla Qlọhun k’o maa ba a” sọ pe:

« إذا كان جنح الليل - أو أمسيتم - فكفوا صيائكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقاً، وأوكسوا قربكم واذكروا اسم الله، وحمروا آنتكم

واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئاً، وأطفئوا
مصاييحكم^٤. [من منه].

« Nigba ti ilẹ ba bẹrẹ si ni su ẹ fi idi awọn ọmọ yin mọlẹ [ẹ ma se jẹ ki wọn o jade], nitori pe awọn esu a maa tan kaakiri ni asiko naa, nigba ti wakati kan ninu oru ba rekoja ẹ tu wọn silẹ, ki ẹ ti awọn ilẹkun yin ki ẹ si daruko Ọlọhun -nigba ti ẹ ba n se bẹẹ-; tori pe dajudaju esu ki i si ilẹkun ti o wa ni titi, ki ẹ si de ẹnu awọn awọ omi yin, ki ẹ si daruko Ọlọhun -nigba ti ẹ ba n se bẹẹ-, ki ẹ si da oju awọn abọ yin dele, ki ẹ si daruko Ọlọhun -nigba ti ẹ ba n se bẹẹ-, koda ki o se wi pe ẹ o dabu nnkan kan le wọn lori, ki ẹ si pa awọn atupa yin ». Bukhari ati Muslim l'o gbe e jade.

وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.

**Ikẹ ati alaafia ati oore Ọlọhun k'o maa ba Anabi
wa Muhammad ati awọn ara ile rẹ pẹlu awọn
Sahaabe rẹ lapapọ**



Atọka

Oju-Iwe

Orọ itisiwaju.....	3
Ọla ti n bẹ fun sise iranti Ọlọhun "Al-Dziki".....	5
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba ji.....	12
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba wọ ẹwu tan.....	18
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba wo asọ tuntun.....	18
Adua ti a o se fun ẹni ti o wọ asọ tuntun.....	19
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba n bọ ẹwu rẹ.....	19
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba fẹ wọ ile-igbõnse tabi aye yowu ti o ti fẹ se igbõnse.....	19
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba n jade kuro ni ile-igbõnse, tabi ibiyowu ti o ti se igbõnse.....	20
Adua ibere aluwala.....	20
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba pari aluwala.....	20
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba fẹ jade kuro ni ile.....	21
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba fẹ wọ ile rẹ.....	22
Adua ti eniyan o se nigba ti ba n lọ si Masalasi.....	23
Adua atiwo Masalasi.....	25
Adua atijade ni Masalasi.....	25
Awon ohun ti eniyan yoo maa wi nigba ti won ba n perun.....	26
Adua isirun.....	28
Adua ti eniyan yoo se ni ruku.....	35
Adua ti eniyan o se nigba ti o ba gbe ori soke lati ruku.....	37
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba fi ori kanle.....	38
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba jokoo laarin iforikanle mejeeji.....	41
Adua ti eniyan yoo se nigba t'o ba fẹ fi ori kanle ni okan ninu awon aye ti a ti maa n fi ori kanle nigba ti a ba n ka Al-Qur'aan alaponle.....	41
Ataaya.....	42

Asalatu ti eniyan yoo se fun Anabi wa ike ati oia Olohun k'o maa ba a leyin ataya	43
Adua ti eniyan o se leyin ataya siwaju ki o too salama.....	45
Adua ti eniyan yoo se leyin t'o ba salama 'leyin irun'.....	52
Adua irun atiforo oore [titoro loḍo Olohun pe ki O dari eni ti o fe dawo le nnkan kan lo sidi ohun ti o loore fun un laye ati lorun].....	58
Awon adua oru ati ti o san.....	61
Awon adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba fe sun	74
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba yira pada loru	82
Adua iberu oju-oorun, ati ti eni ti ba n be ninu didagbe	83
Ohun ti eni ti o ba lala ri aburu ni oju-oorun yoo se nigba ti o ba ji	83
Adua iduro [Al-Qunoot] ti irun Witr	84
Adua ti eniyan yoo se leyin ti o ba salama ni irun Witr.....	86
Adua aibalẹ-ọkan ati ibanuje.....	87
Adua idaamu	88
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba fe pade ota re, tabi eni ti ijoba n be lowo re	90
Adua eni ti n beru abosi eni ti "agbara" ijoba n be lowo re	91
Adua lori ota eni.....	93
Ohun ti eni ti ba n paya awon kan yoo wi.....	93
Adua eni ti iyemeji ba n se igbagbo re	93
Adua atiri gbese san	94
Adua ti eni ti n se iroyiroyi ninu irun ati ninu kewu kika lori irun yoo se.....	95
Adua ti eni ti nnkan kan ba soro fun yoo se.....	95
Ohun ti eni ti o ba de se kan yoo wi ati ohun ti yoo se	96
Adua ati le esu ati iroyiroyi re jinna	96
Adua ti eniyan yoo se nigba ti nnkan ti ko fe ba se se si i, tabi nigba ti apa re ko ba ka oro ara re mo	97
Biba eni ti won bimọ fun yo ati bi yoo ti dahun	97
Ohun ti a o fi maa wa isọ fun awon omode	98

Adua ti eniyan yoo se fun alaarẹ nigba ti o ba bẹ ẹ wo	98
Ọla ti n bẹ fun sise abẹwo alaarẹ	99
Adua alaarẹ ti kó si ireti atisemi fun un mo	100
Ohun ti a o nu ẹni ti n pọkaku	101
Adua ẹni ti adanwo se	102
Adua ti a o se nigba ti a ba n pa oju oku de	102
Adua ti a o se fun oku nigba ti a ba n kirun si i lara	103
Adua ti a o se fun oku ti o ba jẹ ọmọde	106
Adua ibanikẹdun	108
Adua ti a o se nigba ti a ba n gbe oku sinu saare	108
Adua ti a o se fun oku ẹyin ti a ba sin in tan	109
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba bẹ awọn saare wo	109
Adua ti eniyan yoo se nigba ti afẹfẹ ba n fẹ	110
Adua ti a o se nigba ti ara ba san	110
Apa kan ninu awọn adua itoro ojo	111
Adua ti eniyan yoo se nigba ti ojo ba n rọ	112
Al-Dzkir "iranti" ti eniyan yoo se ẹyin ti ojo ba rọ tan	112
Apa kan ninu awọn adua ti a o se nigba ti a ba n fẹ ki ojo o wawọ	112
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba ri osu	113
Adua ti alaawẹ yoo se nigba ti o ba fẹ sinu	113
Adua ti i siwaju ounjẹ	114
Adua ti eniyan yoo se ẹyin ounjẹ	115
Adua ti alejo yoo se fun olounjẹ ti o jẹ	116
Adua ti eniyan o se fun ẹni ti o ba fun un ni omi mu tabi ẹni ti o fẹ fun un ni omi mu	116
Adua ti eniyan yoo se fun awon ti o sinu nile wọn	117
Adua ti alaawẹ yoo se nigba ti wọn ba gbe ounjẹ wa ti o si kọ lati ja aawẹ rẹ	117
Ohun ti alaawẹ yoo wi nigba ti ẹnikan ba bu u	118
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba ri akọkọjade eso	118
Adua ti eni ti o sin yoo se	118

Ohun ti a o sọ fun alaigbagbọ [Keferi] nigba ti o ba sin ti o si dupe: AL-HAMDU LI-L-LAH.....	119
Adua ti a o se fun ẹni ti o gbeyawo	119
Adua ti ẹni ti o gbeyawo ati ẹni ti o ra ẹranko gungun yoo se	120
Adua ti eniyan yoo se siwaju ki o too ba iyawo ẹ lo po	121
Adua ibinu	121
Adua ẹni ti o ri ẹnikan ti Olohun fi adanwo kan	121
Ohun ti eniyan yoo maa wi nibi ti o ba ti jokoo	122
Adua ti i pa ẹṣe ti eniyan da nibi ti o ba ti jokoo ẹ	122
Adua ti eniyan yoo se fun ẹni ti o ba sọ fun un pe: [Gafara -L-Lahu laka] Olohun O fori jin ọ	123
Adua ti o se fun ẹni ti o se daadaa si ọ	123
Ohun ti Olohun fi maa N daabo bo ni kuro loḍo Ad-Dajjal "opuro olojukan"	123
Adua ti o se fun ẹni ti o sọ fun ọ pe: [Innee uhibbuka fee -L-Lah] Mo ẹran ẹ nitori Olohun	124
Adua ti o se fun ẹni ti o ba koju owo ẹ si ọ [pe ki o mu eyi ti o ba ẹ ninu ẹ]	124
Adua ti ẹni ti o ya eniyan lowo yoo se fun ẹni ti o ya lowo nigba ti o ba san an	125
Adua ipaya Ash-Shir'k "iseḅo si Olohun"	125
Adua ti eniyan yoo se fun ẹni ti o ba sọ fun un pe: [Baaraka -L-Lahu feek] Olohun O fun ọ lalubarika [oore]	125
Adua ikorira gbigba ohun asan lasan gbọ pe o le mu ki ibi o se eniyan	126
Adua atigun ohun gungun	126
Adua irin-ajo	127
Adua atiwo ileto tabi ilu nla	129
Adua atiwo ọja	130
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba ẹ ohun ti o gun	131
Adua ti onirin-ajo yoo se fun awon ti yoo fi silẹ	131
Adua ti ẹni ti n bẹ nile yoo se fun onirin-ajo	131
Gbigbe Olohun tobi ati sise afomo fun un lori irin-ajo	132

Adua onirin-ajo ni kutu idaji	132
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba so si aye kan lori ajo tabi nkan miiran	133
Iranti "Ad-Dziki"pipada lati irin-ajo	133
Ohun ti e ni ti nkan idunnu tabi ti nkan ti ko fe ba de si yoo wi	134
Ola ti n be fun sise asalatu [titoro ike ati igbe] fun Anabi wa ike ati ola Olohun k'o maa ba a	135
Titan Salama [kiki ara eni ni ti ola] ka	136
Bi a o ti da alaigbagbo [keferi] lohun nigba ti o ba Salama si wa	138
Adua ti a o se nigba ti akuko ba ko, ati nigba ti ketekete ba ke	138
Adua ti a o se nigba ti a ba gbo gbigbo aja loru	139
Adua ti o se fun eni o ba bu	139
Ohun ti Musulami yoo wi nigba ti yoo ba yin Musulami	140
Ohun ti Musulami yoo se nigba ti won ba fo o mo [ti won ba yin in]	140
Bawo ni eni ti o gbe harami fun Haji tabi Umura yoo ti maa wi gbolohun ijeye [Telbiyyah]	141
Gbigbe Olohun tobi "Allahu Akbar" nigba ti o ba de ibi Al-Hajaru-l-Aswad [okuta dudu ara Ka'abah]	141
Adua ti eniyan yoo maa se laarin origun Yamaania ati ti okuta dudu "Al-Hajaru-l-Aswad"	142
Adua ti eniyan yoo se nigba ti o ba duro lori Safa ati Marwa	142
Adua ojo Arafa	144
Sise iranti Olohun ni Al-Mash'aru-l-Haram [ni Muzdalifah]	144
Wiwi gbolohun Allahu Akbar nigba ti a ba n so oko kookan ni ibusoloko [ni Mina]	145
Adua ti eniyan yoo se nigba ti nkan kan ba ya a lenu, tabi o dun un ninu	146
Ohun ti eni ti nkan idunnu ba se se si yoo se	146
Ohun ti eni ti n je irora yoo wi	146

Adua ti ẹni ti n bẹru pe ki oun o ma fi oju oun ba nnkan kan je yoo se	147
Ohun ti eniyan yoo maa wi ni asiko ijaya.....	148
Ohun ti eniyan yoo wi nigba ti o ba fe duran tabi yoo gunran	148
Ohun ti eniyan yoo wi lati ti ete awon esu alagbere danu.....	148
Itoro aforijin ati ironupiwada	149
ola ti n be fun gbolohun "SUBHAANA -L-LAH", ati "AL-HAMDU LI L-LAH", ati "LAA ILAHA ILLA -L-LAH", ati "ALLAHU AKBAR".....	152
Bawo ni Anabi wa ike ati ola Olohun k'o maa ba a ti i maa n se Tesbeeh -afomo-.....	158
Apa kan ninu awon olokan-o-jokan oore ati awon ekọ ti o kari	158
Atoka.....	160





مصنع الخريجي للصناعات الورقية والطباعة
AL-KHERAJI FACTORY FOR PRINTING & PAPER PRODUCTS

هاتف : ٢٤٤٦٦٨٨ فاكس : ٢٤٤٦٦٩٩ تحويلة ١٠٢

حصن المسلم

سعيد بن وهب القحطاني

بلغتة اليوريا

وَكَلَّمَ الطَّبَوَاتِ وَالنَّحْتِ الْعَلِيِّ
وَرَأَى الشُّوَبِ الْإِسْلَامِيَّةِ الْأَوَاقِ الدَّعْوَةَ وَالْإِسْلَامِيَّةِ
الْمَلِكِ بِالْعَرَبِيَّةِ السَّعُودِيَّةِ